



MISFIT

VAPOR 2™

36 mm DISPLAY SMARTWATCH

Quick Start Guide

MODEL: DW6B1

For detailed information, visit:
[Misfit.com/go](https://misfit.com/go)



Hurtig starthjælp

For detaljerede informationer gå til: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Aan de slag

Ga voor gedetailleerde informatie naar: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Snabbstartsguide

Detaljerad information och säkerhetsinstruktioner finns på [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Hurtigstartveiledning

For detaljert informasjon, gå til: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Schnellanleitung

Ausführliche Informationen finden Sie unter: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, veuillez visiter : [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Guida rapida

Per le informazioni dettagliate visita: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Guia de Início Rápido

Para informações detalhadas, visite: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Guía de inicio rápido

Para más información visite: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Skrócona instrukcja obsługi

W celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ayrıntılı bilgi için şu adresi ziyaret edin: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

دليل التشغيل السريع
للمزيد من الخطوات قم بزيارة: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

Panduan Ringkas

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

クイックスタートガイド

より詳しい情報は次のページをご参照ください: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

快速入门指南

如需详情请访问: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

快速入門指南

如需詳情請訪問: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

빠른 시작 가이드

자세한 내용을 보려면 다음을 방문하십시오: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานด่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจะ: [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)

На сайте [Misfit.com/go](https://misfit.com/go) представлена дополнительная информация.

Dalsí informace naleznete na stránkách [Misfit.com/go](https://misfit.com/go)


Hãy ghé thăm [Misfit.com/go](https://misfit.com/go) để biết thêm thông tin.

STEP 1: CHARGE AND POWER ON

1. Connect your watch to the charger. When your watch is charged, press the button to turn it on.



WARNING: To avoid damage to your watch, only use with included charger. Do not use a USB hub, USB splitter, USB Y-cable, battery pack or other peripheral device to charge.



TRIN 1: OPLADNING

1. Forbind dit ur til opladeren. Når dit ur er opladet, trykker du på knappen for at tænde det.



ADVARSEL: Anvend kun sammen med inkluderede oplader for at undgå skade på dit ur. Anvend ikke en USB-hub, USB-splitter, USB Y-kabel, batteripakke eller andet perifert udstyr til at oplade.

STAP 1: OPLADEN

1. Sluit uw horloge aan op de oplader. Wanneer uw horloge is opgeladen, drukt u op de knop om het in te schakelen.



WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde lader om schade aan uw horloge te voorkomen. Gebruik geen USB-hub, USB-splitter, USB Y-kabel, batterijpakket of andere randapparatuur om het horloge op te laden.

STEG 1: LADDA

1. Anslut din klocka till laddaren. När din klocka är laddad, tryck på knappen för att slå på den.



WARNING: Använd endast den medföljande laddaren för att undvika skador på klockan. Använd inte en USB-hub, USB-delare, USB-Y-kabel, ett batteripaket eller annan kringutrustning för att ladda.

TRINN 1: LADING

1. Koble klokken til laderen. Når klokken er ladet, trykker du på knappen for å slå den på.



ADVARSEL: For å unngå skade på klokken, bruk kun tilhørende lader. Ikke bruk en USB-hub, USB-splitter, USB-Y-kabel, batteripakke eller andre eksterne enheter for å lade.

SCHRITT 1: AUFLADEN

1. Verbinden Sie Ihre Uhr mit dem Ladegerät. Wenn Ihre Uhr aufgeladen ist, drücken Sie auf die Taste, um sie einzuschalten.



ACHTUNG: Um Schäden an Ihrer Uhr zu vermeiden, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Nutze zum Aufladen weder ein USB-Hub noch einen USB-Splitter oder ein USB-Y-Kabel, einen Akku oder sonstige Peripheriegeräte.

ÉTAPE 1: CHARGEMENT

1. Connectez votre montre au chargeur. Lorsque votre montre est chargée, appuyez sur le bouton pour l'allumer.



ATTENTION : pour éviter d'endommager votre montre, utilisez uniquement le chargeur inclus. N'utilisez pas d'hub USB, de répartiteur USB, de câble USB en Y, de bloc batterie ou d'autre périphérique pour charger.

PUNTO 1: RICARICA

1. Collega il tuo orologio ad un caricatore. Quando l'orologio è carico, premi il tasto per accenderlo.



ATTENZIONE: onde evitare danni all'orologio, usare soltanto il caricatore in dotazione. Non usare un hub USB, uno splitter USB, un cavo USB a "Y", un battery pack o altri dispositivi periferici per caricare il

STEP 2: DOWNLOAD AND PAIR

1. On your phone, download the Wear OS by Google(TM) app from the App Store(SM) or Google Play(TM) Store.
2. Open the Wear OS by Google™ app on your phone and follow the prompts to pair your watch with your phone. Once paired, your watch screen will walk you through setup procedures.
3. To enable advanced fitness tracking, on your phone, download the Misfit app from the App Store™ or Google Play™ and follow the setup procedure on the app.

HEART RATE TRACKING

DAILY USE:

Wear the strap above your wrist bone with the watch flat against your skin.

EXERCISE:

Tighten the strap and move the watch higher on your wrist. Loosen when done.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Wear OS by Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

For Android users in China:

1. The watch will boot up. Tap the screen to start and scroll up to allow permissions.
2. Scan the code that appears on the watch to download and install the Chinese version of the Wear OS by Google™ app. You can also download and install the Chinese version of the Wear OS by Google™ app from any major Android app market.
3. Open the Wear OS by Google™ app on your phone and follow the prompts to pair and set up your watch.

TRIN 2: KOM I GÅNG

1. På din telefon skal du downloade app'en Wear OS by Google(TM) fra App Store(SM) eller Google Play(TM) Store.
2. Åben app'en Wear OS by Google™ på din telefon og følg anvisningerne på din telefon for at parre dit ur med din telefon. Når de er parret, fører skærmen på dit ur dig gennem opsættelsesproceduren.
3. For at aktivere avanceret fitness-tracking på din telefon download Misfit-app'en fra App Store™ eller Google Play™ og følg proceduren for opsætning i app'en.

Apple og Apple-logoen er varemærker tilhørende Apple Inc., registrerede i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

HERTEFREKVENST-RACKER

DAGLIG BRUG: Bær remmen ovenover din håndledsknogle med uret fladt mod huden.

MOTION: Stram remmen og flyt uret højere op på dit håndled. Løs op når træningen er overstet.

STEP 2: BEGINNEN

1. Download de Wear OS by Google(TM) app op uw telefoon uit de App Store(SM) of uit de Google Play(TM) Store.
2. Open de Wear OS by Google™-app op uw telefoon en volg de instructies om uw horloge te koppelen met uw telefoon. Na het koppelen begeleidt het scherm van uw horloge u bij de configuratieprocedures.
3. Om geavanceerde fitness-tracking in te schakelen, download u de Misfit-app in de App Store™ of Google Play™ en volg u de configuratieprocedure in de app.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedoneerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Wear OS by Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

VOLEEN VAN HARTRITME

DAGELIJKS GEBRUIK: Draag de band om uw pols met het horloge plat op de huid.

TRAINING: Plaats het horloge iets hoger op uw pols en trek de band wat strakker aan. Maak de band na de sessie weer wat losser.

STEG 2: KOM IGÅNG

1. På din telefon, ladda ner Wear OS by Google™-app en från App Store™ eller Google Play™ Store.
2. Öppna appen Wear OS by Google™ på din telefon och följ anvisningarna för att para ihop din klocka med din telefon. När de har parats ihop kommer skärmen på din klocka att vägleda dig genom installationsprocessen.
3. För att aktivera avancerad träningsuppföljning, ladda ner Misfit-appen på din telefon från App Store™ eller Google Play™ och

instruktionerna i appen.

Apple og Apples logotyp er varumærken som tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play är varumærken som tilhører Google LLC.

PULSMÅTNING

DAGLIG BRUK: Bær remmen ovenfor handledsbenet med klokken platt mot huden.

TRNING: Dra åt remmen och flytta klockan högre upp på din handled. Lössa när du är klar.

TRIN 2: KOM I GÅNG

1. På telefonen, last ned Wear OS by Google™-app fra App Store(SM) eller Google Play(TM) Store.
 2. Åbn Wear OS by Google™-appen på telefonen din og følg instruksjonene for å koble sammen klokken med telefonen. Når de er sammenkoblet, vil klokkeskjermen lede deg gjennom oppsettet.
 3. For å aktivere avansert treningssporing må du laste ned Misfit-appen fra App Store™ eller Google Play™ til telefonen din og følge installasjonsprosedyren i appen.
- Apple og Apple-logoen er varemærker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et varemærke som tilhører Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play er varemærker som tilhører Google LLC.

HJERTEFREKVENSMÅLER

DAGLIG BRUK: Fest remmen over håndleddet med klokken flatt mot huden.

TRNING: Stram remmen og flytt klokken høyere på håndleddet. Lesse når du er ferdig.

SCHRITT 2: LEGEN SIE LOS

1. Laden Sie die Wear OS by Google™-App über den App Store(SM) oder Google Play™ Store auf Ihrem Telefon herunter.
2. Öffnen Sie die Wear OS by Google™-App auf Ihrem Telefon und folgen Sie den Aufforderungen, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln. Sobald diese gekoppelt wurde, werden Sie über den Bildschirm Ihrer Uhr durch das Setup-Verfahren geleitet.
3. Laden Sie die Misfit-App über den App Store™ oder Google Play™ auf Ihr Telefon herunter und folgen Sie dem Setup-Verfahren auf der App, um erweitertes Fitness-Tracking zu aktivieren. Apple und das Apple Logo sind Handelsmarken von Apple, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmerkmale von Apple, Inc. Wear OS by Google und das Google Play sind Handelsmarken von Google, LLC.

HERZFREQUENZTRACKING

TÄGLICHER GEBRAUCH: Trage das Armband oberhalb deines Handgelenkknochens mit der Uhr flach auf der Haut.

BEIM TRAINING: Ziehe das Armband fest und schiebe die Uhr am Handgelenk hoch. Nach Abschluss lösen.

ÉTAPE 2: DÉMARRAGE

1. Sur votre téléphone, téléchargez l'application Wear OS by Google (TM) dans l'App Store (SM) ou Google Play (TM).
 2. Ouvrez l'application Wear OS by Google™ sur votre téléphone et suivez les instructions pour synchroniser votre montre à votre téléphone. Une fois votre montre synchronisée, l'écran vous guidera à travers les procédures de configuration.
 3. Pour activer le suivi fitness avancé, téléchargez l'application Misfit sur l'App Store™ ou Google Play™ et suivez la procédure de configuration de l'application.
- Apple et le logo Apple sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc. Wear OS by Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

SUVIVI DE FREQUENCIA CARDIACA

UTILISATION QUOTIDIENNE: Portez le bracelet au-dessus de l'os du poignet avec la montre à plat contre la peau.

EXERCICE: Serrez le bracelet et placez la montre plus haut sur votre poignet. Desserrez quand fini.

PUNTO 2: INTRODUZIONE

1. Scaricare e installare sul telefono l'app Misfit da App Store™ o Google Play™.
 2. Apri l'app Wear OS by Google™ sul tuo telefono e segui le istruzioni per l'accoppiamento dell'orologio con il telefono. Una volta eseguito l'accoppiamento, il quadrante dell'orologio indicherà le procedure di configurazione da seguire.
 3. Per abilitare il monitoraggio avanzato del fitness, scarichi sul tuo telefono l'app Misfit da App Store™ o Google Play™ e segua la procedura di configurazione sull'app.
- Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Wear OS by Google e Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

MONITORAGGIO FREQUENZA CARDIACA

USO QUOTIDIANO: Indossare il cinturino sopra l'osso del polso, mantenendo l'orologio in piano sulla pelle.

ESERCIZIO: Stringere il cinturino e spostare ulteriormente l'orologio sopra al polso. Allentare quando fatto.

PASSO 2: COMEÇAR

1. No seu telefone, transfira a app Wear OS by Google(TM) a partir da App Store(SM) ou da Google Play(TM) Store.
 2. Abra a aplicação Wear OS by Google™ no seu telefone e siga as indicações para emparelhar o seu relógio com o seu telefone. Depois de emparelhado, o ecrã do seu relógio guiará-o através dos procedimentos de configuração.
 3. Para ativar a monitorização avançada de fitness, no seu telefone, descarregue a aplicação Misfit a partir da App Store™ ou Google Play™ e siga o procedimento de configuração na aplicação.
- Apple e o logotipo Apple são marcas comerciais de Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de serviço de Apple Inc. Wear OS by Google e Google Play são marcas registadas de Google LLC.

CONTROLAR DA FREQUENCIA CARDIACA

UTILIZACAO DIARIA: Utilize a correia acima do osso do seu pulso com o relógio plano contra a sua pele.

EXERCICIO: Aperte a correia e mova o relógio mais alto do que o seu pulso. Solte quando terminar.

PASO 2: EMPEZAR

1. Descargue la aplicación Wear OS by Google(TM) en la App Store (SM) o Google Play Store(TM) en el teléfono.
 2. Abra la app Wear OS by Google™ en tu teléfono y sigue las indicaciones para emparejar el reloj con tu teléfono. Una vez emparejado, la pantalla de tu reloj te ayudará por los procesos de la instalación.
 3. Para habilitar el seguimiento de fitness avanzado, descarga la app Misfit de la App Store™ o Google Play™ y sigue el proceso de instalación en la app.
- Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Wear OS by Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

SEGUIMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA

USO DIARIO: Lleve puesta la correa por encima del hueso de la muñeca con el reloj extendido contra la piel.



EJERCICIO: Ajuste la correa y mueva el reloj más arriba en la muñeca. Aflojar cuando haya terminado.

KROK 2: WPROWADZENIE

1. Pobierz na swoim telefonie aplikację Wear OS by Google(TM) ze sklepu App Store(SM) lub Google Play(TM).
2. Uruchom aplikację Wear OS by Google™ na telefonie i postępuj zgodnie z komunikatami, aby sparować zegarek z telefonem. Następnie na ekranie zegarka zostanie wyświetlone instrukcje umożliwiającej przeprowadzenie konfiguracji.
3. Aby włączyć zaawansowane monitorowanie aktywności fizycznej na telefonie, pobierz aplikację MiFit z App Store™ lub Google Play™ i postępuj zgodnie z jej procedurą konfiguracji. Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Wear OS by Google oraz Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

MIERZENIE PULSU

CODZIENNE LYTOWANIE: Załóż pasek powyżej kości nadgarstka w taki sposób, aby zegarek przylegał do skóry. **CWCZENIA:** Zaciśnij pasek i przesuń zegarek w górę nadgarstka. Po zakończeniu połuzuj pasek.

2.ADIM: BAŞLARIKEN

1. Telefonuzdan App Store(SM) ve Google Play(TM) mağazasından Wear OS by Google(TM) indirin.
2. Telefonunuzda Wear OS by Google™ uygulamasının açın ve saatinizi telefonunuza eşleştirme için izletleri takip edin. Eşleştikten sonra saat ekranında kurulum işlemleri için rehberlik sunulacaktır.
3. Telefonunuzda gelişmiş fitness takibini etkinleştirmek için App Store™ veya Google Play™’den MiFit uygulamasını indirin ve uygulamadaki kurulum prosedürünü takip edin. Apple ve Apple logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır ve bu markalar ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. App Store Apple Inc.’in hizmet markasıdır. Wear OS by Google ve Google Play’in ticari markalarıdır Google LLC.

KALP ATIŞI TAKİBİ

GÜNÜK KULLANIM: Kayış saati teninize dokt olacakt şekilde bileğizinizi üstüne takın. **EĞZERSİZ:** Kayış sıkılaştırın ve saati bileğizinize yukarıya hareket ettirin. Bittirginde gevşetirin.



الخضوة ٢: استعد للبدء

١. على هاتفك، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Wear OS by Google(TM) من متجر التطبيقات (App Store) أو جوجل بلاي (Google Play) (TM).
٢. افتح تطبيق Wear OS by Google™ على هاتفك واتبع التعليمات لإقران ساعتك معًا. ستقوم شاشة مساعدتك عند إجراءات الإعداد.
٣. لتفعيل ميزة تتبع النبض المتقدمة، قم بتحميل تطبيق MiFit من متجر التطبيقات (App Store™) أو Google Play™. Apple و Apple logo هي علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc. وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هو علامة خدمة تابعة لشركة Apple Inc. كلها علامات تجارية خاصة بشركة Google LLC.



LANGKAH 2: MEMULAI

1. Di ponsel Anda, unduh aplikasi Wear OS by Google(TM) dari App Store(SM) atau Google Play(TM) Store.
2. Buka aplikasi Wear OS by Google™ pada ponsel Anda dan ikuti petunjuk untuk menyangkan tangan dengan ponsel Anda. Setelah disangkan, layar jam tangan Anda akan memandu Anda melewati prosedur pengaturan.
3. Untuk mengaktifkan pelacakan detak jantung lanjutan, pada ponsel Anda, unduh aplikasi MiFit dari App Store™ atau Google Play™ dan ikuti prosedur pengaturan di aplikasi. Apple dan logo Apple adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan dari Apple Inc. Wear OS by Google dan Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.

PELACAKAN DETAK JANTUNG

PENGUNTAAN SEHARI-HARI: Kenakan tali di atas tulang pergelangan tangan Anda dengan jam tangan menempel rata di atas kulit Anda. **LATHAN:**Kencangkan tali dan pindahkan jam tangan lebih tinggi pada pergelangan tangan Anda. Kemudian bisa sudah selesai.

ステップ 2:開始

1. スマートフォンで、App Store(SM)またはGoogle Play(TM)ストアからWear OS by Google(TM)アプリをダウンロードしてください。
2. 携帯のWear OS by Google™アプリを開き、画面の指示に従ってウォッチと携帯をペアリングします。ペアリングが完了したら、ウォッチの画面にセットアップの案内が表示されます。
3. 高度なフィットネストラッキングを有効にするには、携帯にApp Store™またはGoogle Play™からMiFitアプリをダウンロードして、アプリのセットアップガイドに従ってください。AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Wear OS by GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

心拍数トラッキング

日常：ストラップを手根骨（手首の関節の骨）の上に装着し、ウォッチが腕に平らに当たるようにしてください。運動時：ストラップをしっかりと締め、ウォッチが手首の高い位置に来るようにください。完了したら緩めます。

第2步：开始

1. 对于中国用户：从 App Store (SM) 或 Google Play (TM) 商店下载 Wear OS by Google (TM) 应用程序到手机中。
1. 手表开机，点击屏幕开始，向上滑动触摸屏以注册设备。
2. 使用手机扫描手表屏幕二维码，下载安装 Wear OS by Google™ 中国版 app。
3. 打开 Wear OS by Google™ 中国版 app，跟随提示完成手机和手表的配对、同步。
- 若要开启高级健身追踪，在您的手机上从 App Store™ 或 Google Play™ 下载 MiFit 应用程序，并遵照应用程序上的设置指南。

Apple与Apple的标识是苹果公司在美国以及其他国家注册的商标。Apple Store是苹果公司中的一个服务商标。Wear OS by Google和Google Play是Google LLC的商标。

心率追踪

日常使用：将表带戴在腕骨上，让手表平贴您的皮肤。运动：收紧表带，将手表向手腕的更高处移动。完成后松开。

第2步：開始

1. 從 App Store (SM) 或 Google Play (TM) 商店下載 Wear OS by Google (TM) 應用程式到手機中。
 2. 在您的手機上打開 Wear OS by Google™ 應用程式，遵照提示將手錶與您的手機配對。配對完成後，您的手錶屏幕將引導您設定應用程式。
 3. 若要開啟高級健身追蹤，在您的手機上從 App Store™ 或 Google Play™ 下載 MiFit 應用程式，並遵照應用程式上的設定程序。
- Apple、Apple 標誌是蘋果公司在美國以及其他國家註冊的商標。App Store (應用商店) 是蘋果公司的服務標誌。Wear OS by Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

心率追踪

每日使用：將錶帶配戴在您的腕骨之上，而錶底貼著您的皮膚。鍛鍊：將錶帶緊繫並且將手錶移您的手腕上較高處。完成後鬆開。

2 단계: 시작하기

1. 귀하의 폰의 앱 스토어(SM) 또는 구글 플레이(TM)에서 안드로이드 웨어(TM) 앱을 다운로드하십시오.
 2. 폰 Wear OS by Google™을 연 후, 시계와 폰 페어링 절차를 따라주세요. 페어링이 되면, 시계 화면 설정 절차를 따라주세요.
 3. 만약에 고급健身追踪을 사용 설정을 하려면, App Store™ 또는 Google Play™에서 MiFit 앱을 다운로드 한 후 설정 절차를 따라주세요.
- Apple과 Apple 로고는 미국 및 기타 국가들에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. Wear OS by Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

심박 수 추적

매일 사용: 시계가 피부에 밀착되도록 팔목 밑 위에 시계 풀을 착용하세요. 운동: 손목을 더 고정된 더 높은 시계를 팔목 위 부분으로 올려주세요. 완료 되면 살짝 풀어주세요.

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้น

1. บนโทรศัพท์ของคุณ ดาวน์โหลด Wear OS by Google(TM) จาก App Store(SM) หรือ Google Play(TM) Store
 2. เปิด Wear OS by Google™ บนโทรศัพท์ของคุณตามคำแนะนำที่แสดงเมื่อเริ่มเปิดโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนการตั้งค่า
 3. เพื่อเปิดการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจขั้นสูง ให้ดาวน์โหลด MiFit จาก App Store™ หรือ Google Play™ บนโทรศัพท์ของคุณแล้วทำตามขั้นตอนการตั้งค่า
- Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Wear OS by Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

การติดตั้งด้วยการเชื่อมต่อทางไร้สาย

การใช้งานเบื้องต้น: ให้สวมเข็มขัดของคุณโดยรอบข้อศอกไปบนทิศทางยึดกับเข็มขัดของนาฬิกา การตั้งค่าขั้นสูง: ให้สวมเข็มขัดบนทิศทางไปสู่เข็มขัดของนาฬิกาเป็นทิศทางที่มีเข็มขัดแน่น.

ШАГ 2: ЗАГРУЗКА И СОПРЯЖЕНИЕ

1. Загрузите на смартфон приложение Wear OS by Google(TM) из App Store(TM) или Google Play(TM).
2. Откройте приложение Wear OS by Google(TM) на смартфоне и следуйте подсказкам по сопряжению часов по каналу Bluetooth(TM). По окончании сопряжения следуйте указаниям на экране часов для выполнения процедуры настройки.
3. Для включения расширенного отслеживания фитнес-активности загрузите на смартфон приложение MiFit из App Store™ или Google Play™ и следуйте указаниям по настройке этого приложения. Название Apple и логотип Apple являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Wear OS by Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

OTSLEDŽIVANJE PULSA

EGEDNEVNOE PRIMENENIE: Zagnite remeshk na zapyeste takim obrazom, чтобы часы плотно прилегли к коже. **ТРЕНІРОВАК:** Zagnite remeshk i podnimite chasy vverk po zapyeste. Oslabte remeshk, kгда zakonchite.

KROK 2: STAŽENIE A PÁROVANÍ

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Wear OS by Google(TM) z obchodu App Store(TM) nebo Google Play(TM).
2. Spustíte v telefonu aplikaci Wear OS by Google(TM) a postupujte podle pokynů pro správaní hodinek pomocí připojení Bluetooth(TM). Po správaní vás obrazovka hodinek provede nastavením.
3. Chcete-li povolit pokročilě sledování kondice v telefonu, stáhněte si z obchodu App Store™ nebo Google Play™ aplikaci MiFit a postupujte podle pokynů v aplikaci. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Wear OS by Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

SLEDOVANÍ TEPOVÉ FREKVENCE

DENNÍ POUŽÍVANÍ: Noste pásek na zápěstí kosti s hodinkami rovně proti pokožce. **CVCENÍ:** Pásek utáhněte a hodinky posuňte na zápěstí nahoru. Po dokončení uvolněte.

ВУОС 2: ТАЙ ВÈ В КÈТ НОÍ



1. Trén điện thoại, hãy tải về ứng dụng Wear OS by Google(TM) từ App Store(TM) hoặc Google Play(TM) Store.
2. Mở ứng dụng Wear OS by Google(TM) trên điện thoại và làm theo gợi ý để kết nối đồng hồ của bạn sử dụng qua Bluetooth(TM). Khi đã kết nối, màn hình đồng hồ của bạn sẽ hướng dẫn bạn cụ thể các quy trình cài đặt.
3. Để bắt chước nâng theo dõi sức khỏe nâng cao, trên điện thoại, hãy tải về ứng dụng MiFit từ App Store™ hoặc Google Play™ và làm theo quy trình cài đặt trên ứng dụng.

Apple và logo của Apple là những nhãn hiệu của Tập đoàn Apple được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Tập đoàn Apple. Wear OS by Google và Google Play là những nhãn hiệu của Tập đoàn Google LLC.

THEO DÕI NHIP TIM

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY: Đeo dây đồng hồ phía trên xương cột tay với một dây đồng hồ áp vào da.
TẮP THỂ DỤC: Thắt chặt dây đồng hồ và đưa đồng hồ cao hơn cổ tay bạn. Nới lỏng khi hoàn thành.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep these instructions.
- Do not attempt to open, disassemble or tamper with the Product. Substances contained in this product and/or its battery may damage the environment and/or human health if handled and disposed of improperly.
- Do not use the Product in circumstances that could cause a dangerous situation, such as using the Product while operating heavy machinery or driving a moving vehicle in a manner that might cause you to take your eyes off the road or become so absorbed in the activity that your ability to concentrate on the act of driving becomes impaired.
- Do not expose the Product to extremely high or low temperatures, direct sunlight for an extended period of time, or to high water pressure.
- Never allow children to play with the product; the small components may be a choking hazard!
- The Product is not intended for use where the failure of the Product could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.
- Maps, directions, and other GPS or navigation data, including data relating to your current location, may be unavailable, inaccurate, or incomplete.
- (If applicable) Do not wear or clean your Product while you are charging it.

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Opbevar disse instruktioner.
- Forsøg ikke at åbne, adskille eller modificere Produktet. Stoffer, som findes i produktet og/eller batteriet, kan skade miljøet og/eller menneskers helbred, hvis de ikke håndteres og bortskaffes på passende vis.
- Anvend ikke Produktet under forhold som kunne forårsage en farlig situation, såsom at bruge Produktet mens du betjener tunge maskiner, eller er fører af et køretøj, på en måde som måtte bevirke at du tager øjnene af kørebanelen, eller du bliver så opslugt i aktiviteten at din evne til at koncentrere dig om kørslen forringes.
- Udsæt ikke Produktet for ekstremt høje eller lave temperaturer, direkte sollys i længere tid eller for højt vandtryk.
- Giv aldrig børn lov til at lege med Produktet; de små komponenter kan medføre kvælningsfare!
- Det er ikke hensigten at bruge Produktet, hvor fejlfunktion af Produktet kan medføre død, personskade eller alvorlig miljøskade.
- Kort, kørselsvejledninger og andre gps- eller navigationsdata, herunder data om din nuværende position, kan være utilgængelige, unøjagtige eller mangelfulde.
- (Hvis relevant) Bør eller rengør ikke dit Produkt mens du oplader det.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIJNSTRUCITIES

- Bewaar deze instructies.
- Probeer het product niet te openen, te demonteren of te veranderen. Stoffen in dit product en/of de batterij kan het milieu en/of de gezondheidsschaden indien onjuist behandeld en afgevoerd.
- Gebruik het product niet in gevaarlijke omstandigheden, zoals het gebruik van het product tijdens het bedienen van zware machines of bij het besturen van een bewegend voertuig. Gebruik het product niet op een manier die ertoe kan leiden dat u uw ogen niet op de weg houdt of waarbij u zo geabsorbeerd raakt in de activiteit dat u zich niet langer kunt concentreren op het rijden.
- Stel het Product niet gedurende een lange periode bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, direct zonlicht of aan hoge waterdruk.
- Laat geen kinderen met het product spelen. De kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren!
- Het product is niet bedoeld om te gebruiken in situaties daar waar een tekortkoming aan het product zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige schade aan het milieu.
- Kaarten, routebeschrijvingen en andere GPS- of navigatiegegevens, waaronder gegevens over uw huidige locatie, zijn mogelijk niet beschikbaar, onjuist of onvolledig.
- (Indien van toepassing) Tijdens het opladen kunt u het product niet dragen of reinigen.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Behåll dessa instruktioner.
- Försök inte att öppna, ta isär eller manipulera produkten. Ämnen som finns i denna produkt och/eller dess batteri kan skada miljön och/eller människors hälsa om de hanteras och avyttras på fel sätt.

- Använd inte produkten under omständigheter som kan skapa en farlig situation, så som att använda produkten medan du använder tunna maskiner eller kör ett fordon i rörelse på ett sätt som kan göra att du tar ögonen från vägen eller blir så upplagen av aktiviteten att din förmåga att koncentrera dig på körandet försämras.
- Utsett inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, direkt solljus under en längre tid eller högt vattentryck.
- Låt aldrig barn leka med produkten då de små komponenterna kan utgöra en kvävningsrisk!
- Produkten är inte avsedd för användning där fel på produkten kan leda till dödsfall, personskada eller allvariga miljöskador.
- Kartor, vägsbeskrivningar och andra GPS- eller navigationsdata, inklusive uppgifter om din aktuella plats, kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga.
- (Om tillämpligt) Ha inte på dig eller rengör din produkt medan du laddar den.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

- Ta vare på disse anvisningene.
- Ikke forsøk å åpne, demontere eller tukle med produktet. Stoffer som finnes i dette produktet og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers helse hvis det håndteres og avhendes på feil måte.
- Ikke bruk produktet under forhold som kan føre til en farlig situasjon, for eksempel ved bruk av produktet ved drift av tunge maskiner eller mens du kjører et kjøretøy på en måte som kan få deg til å ta øynene av veien eller blitt så opplagt i aktiviteten at evnen til å konsentrere seg kjøringen blir svekket.
- Ikke utsett produktet for ekstremt høye eller lave temperaturer, direkte sollys over lengre tid eller høyt vanntrykk.
- Ikke la barn leke med produktet; de små komponentene kan representere en kvælningsfare!
- Produktet er ikke beregnet for bruk hvor feil med produktet kan føre til død, skader eller alvorlige miljøødelegelser.
- Kart, veibeskrivelser og andre GPS- eller navigasjonsdata, inkludert data knyttet til din nåværende posisjon, kan være utilgjengelige, unøyaktige eller ufullstendige.
- (Hvis aktuell) Ikke bruk eller rens produktet mens det lades.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen oder es zu manipulieren. In diesem Produkt enthaltene Substanzen und/oder seine Batterien können die Umwelt und/oder die menschliche Gesundheit schädigen, wenn sie unsachgemäß behandelt oder entsorgt werden.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn dies zu einer gefährlichen Situation führen könnte, wie z. B. die Nutzung des Produktes während der Bedienung schwerer Maschinen oder dem Fahren von beweglichen Fahrzeugen in einer Weise, die Sie Ihre Augen von der Straße abwenden oder so in einer Aktivität versunken sind, dass Ihre Konzentrationsfähigkeit oder Ihre Fahrtüchtigkeit eingeschränkt wird.
- Setzen Sie das Produkt keinem extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht oder keinem zu hohen Wasserdruck aus.
- Erlauben Sie Kindern niemals, mit dem Produkt zu spielen; die kleinen Teile können ein Erstickungsrisiko darstellen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung in Situationen geeignet, in denen die Fehlfunktion des Produktes zu Tod, Personenschäden oder gravierenden Umweltschädigungen führen könnte.
- Karten-, Wegbeschreibungs- und andere GPS- oder Navigationsdaten, einschließlich Daten im Zusammenhang mit Ihrem aktuellen Standort, könnten nicht verfügbar, ungenau oder unvollständig sein.
- (Falls zutreffend) Reinigen Sie Ihr Produkt nicht, während Sie es aufladen.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Conservez ces instructions.
- Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de modifier le Produit. Les substances contenues dans ce produit et/ou sa batterie pourraient porter atteinte à l'environnement et/ou à la santé humaine en cas de manipulation ou d'élimination non conformes aux prescriptions.
- N'utilisez pas le Produit dans des circonstances pouvant créer une situation dangereuse, comme utiliser le Produit en même temps que des machines lourdes ou en conduisant un véhicule en mouvement de telle manière que vous seriez amené à quitter la route des yeux ou à être tellement absorbé par l'activité que votre capacité à vous concentrer sur votre conduite en serait altérée.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée ou à une forte pression d'eau.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le produit ; ses petites pièces présentent un risque d'étouffement !
- Le Produit n'est pas destiné à une utilisation là où le Produit pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles ou porter gravement atteinte à l'environnement.
- Les cartes, les directions et les autres données GPS ou de navigation, y compris les données relatives à votre position actuelle, peuvent être indisponibles, inexactes ou incomplètes.
- (Le cas échéant) Ne portez pas et ne lavez pas le Produit durant son chargement.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Conservare le presenti istruzioni.
- Evitare di aprire, smontare o alterare il prodotto. Le sostanze contenute in questo prodotto e/o le pile potrebbero danneggiare l'ambiente e/o la salute se manipolate e disperse in modo inopportuno.
- Non usare il Prodotto in circostanze che potrebbero causare una situazione pericolosa, come usarlo durante il funzionamento di macchinari pesanti o alla guida di un veicolo in movimento in modo che distrugga l'utente dalla guida o

- che sia assorbito nell'attività tale da compromettere la capacità di concentrarsi alla guida.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, alla luce diretta del sole per un periodo di tempo elevato, o a un'elevata pressione dell'acqua.
- Non consentire mai ai bambini di giocare con il prodotto, in quanto i piccoli componenti che lo compongono possono causare pericolo di soffocamento!
- Il Prodotto non è destinato ad usi, in cui il mancato funzionamento potrebbe causare morte, lesioni personali o gravi danni all'ambiente.
- Le mappe, le indicazioni e gli altri dati GPS o di navigazione, fra cui i dati relativi alla tua attuale posizione, potrebbero essere non disponibili, imprecisi o incompleti.
- (Se applicabile) non indossarlo o pulirlo il Prodotto durante la ricarica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Guarde estas instruções.
- Não tente abrir, desmontar ou adulterar o Produto. As substâncias contidas neste produto e/ou a sua bateria poderão danificar o ambiente e/ou a saúde pública se manuseados ou eliminados indevidamente.
- Não utilize o Produto em circunstâncias que possam causar uma situação perigosa, tal como usar o Produto enquanto manobra máquinas pesadas ou enquanto conduz um veículo em movimento que o possa levar a desviar os seus olhos da estrada ou a tornar-se tão absorvido pela atividade que a sua capacidade de se concentrar na ação de conduzir fique comprometida.
- Não exponha o Produto a temperaturas extremamente altas ou baixas, a luz solar direta por um longo período de tempo ou a alta pressão da água.
- Nunca permita que crianças brinquem com o produto; os componentes pequenos poderão representar perigo de asfixia!
- O Produto não tem por objetivo ser utilizado quando uma falha do Produto possa levar à morte, a lesão pessoal ou a graves danos ambientais.
- Mapas, direções e outros dados GPS ou de navegação, incluindo dados relativos à sua localização atual, poderão não estar disponíveis, ser imprecisos ou estar incompletos.
- (Se aplicável) Não utilize ou limpe o seu Produto enquanto o estiver a carregar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Conserve estas instrucciones.
- No intente abrir, desmontar o manipular el Producto. Las sustancias contenidas en este Producto y/o su batería pueden dañar el medio ambiente y/o la salud de las personas si se utilizan y desechan de forma indebida.
- No utilice el Producto en circunstancias que puedan provocar peligro, como usar el Producto al manejar maquinaria pesada o conducir un vehículo en movimiento, de forma que le haga apartar la vista de la carretera o que le haga estar tan concentrado en la actividad que la capacidad para concentrarse en el acto de conducir sea deficiente.
- No exponga el Producto a temperaturas extremas, a la luz solar directa durante un largo periodo o a una fuerte presión de agua.
- ¡Nunca permita que los niños jueguen con el Producto; las piezas pequeñas pueden provocar asfixia!
- El Producto no debe utilizarse en situaciones donde una avería del Producto pueda provocar la muerte, daños personales, o daños graves al medioambiente.
- Los mapas, las direcciones y otros datos del GPS o la navegación, incluyendo la información relacionada con su ubicación actual, podrían no estar disponibles, ser imprecisos o estar incompletos.
- (En caso de ser aplicable) No lleve puesto el Producto ni lo limpie mientras se está cargando.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zachowaj te instrukcje.
- Nie próbuj otwierać, demontować lub manipulować przy Produkcie. Substancje zawarte w tym produkcie i/lub jego baterii mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i dla środowiska, jeżeli będą utylizowane i usuwane w niewłaściwy sposób.
- Nie należy używać produktu w okolicznościach, które mogłyby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak korzystanie z Produktu podczas pracy przy ciężkim sprzęcie lub podczas prowadzenia pojazdów w sposób, który może doprowadzić do oderniania przez Ciebie wzroku od drogi lub skupienia się na aktywności związanej z produktem i spowodować, że Twoja koncentracja na akcie jazdy zostanie osłabiona.
- Nie wystawiać Produktu na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur, przez dłuższy czas na działanie światła słonecznego oraz na działanie wody pod ciśnieniem.
- Nigdy nie pozwalaj dziecom bawić się Produktem; małe części mogą być przychytną zadławieniem! Produkt nie jest przeznaczony do używania, w przypadku gdy awaria Produktu może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód środowiskowych.
- Mapy, kierunki i inne dane GPS lub nawigacji, w tym dane dotyczące obecnego położenia, mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne.
- (Jeśli dotyczy) Nie zakładaj Produktu ani nie czyść go, gdy się ładuje.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu talimatları saklayın.
- Ürünü asmayın, sökme/ya da kurcalama/ya çalkımayın. Bu ürünün ve/veya bataryasının içinde bulunan maddeler elle tutulacak ya da uygun olmayan bir şekilde atılacak olursa çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verebilir.

- Ürünü, iş makinesi kullanırken ya da hareket halindeki bir aracı kullanırken gözünüzü yoldan ayırmazsanız yol açacak veya aracı kullanma yetimisi engelleyecek şekilde konsantrasyonunuzu bozamazsanız neden olabilecek koşullarda kullanmayın.
- Ürünü uzun süre boyunca aşırı yüksek veya düşük ısıya doğrudan güneş ışığı veya suya sokarsanız maruz bırakmayın.
- Çocukların ürünü oynamasına hiçbir zaman izin vermeyin; küçük parçalar boğulma tehlikesine yol açabilir!
- Ürünü, Ürünün arzısının ölüme, yaralanmaya ya da ciddi çevresel zarara yol açabileceği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Mevcut konumunuzla ilgili veriler de dahil olmak üzere hatalar, yollar ve diğer GPS veya navigasyon verileri mevcut, doğru veya tam olmayabilir.
- (Eğer mevcutsa) Ürününüzü onu şarj ederken takmayın ya da temizlemeyin.

إرشادات مهمة للسلامة

- احتفظ بهذه الإرشادات. احفظ هذه الإرشادات. احفظ هذه الإرشادات.
- لا تحاول فتح أو تفكيك أو التعديل هذا المنتج أو التعديل هذا المنتج أو التعديل هذا المنتج الخاصة به قد تؤدي إلى أضرار بيئية وأو على صحة الإنسان إذا تم التعامل معها والتخلص منها بطريقة غير صحيحة.
- لا تستخدم المنتج في الظروف التي يمكن أن تسبب أضرارًا خطيرة مثل: استخدام المنتج أثناء تشغيل الآلات الثقيلة أو قيادة المركبات المتحركة بطريقة قد تؤدي إلى إغراق الطريق أو أن تصبح متسرفقا تماما في الزوايا الذي يبعث من سيطرتك على القيادة.
- لا تعرض للمطر الحرارة المنخفضة أو المنخفضة جدا أو لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة من الزمن، أو لضغط مياه قوي.
- لا تسمح للأطفال أبداً باللعب بالمنتج، حيث أن المكونات الصغيرة يمكن أن تسبب مخاطر الاختناق!
- المنتج ليس معداً للاستخدام إذا كان قادم من بلد غير ذي صلة، قد يؤدي إلى الرضا أو الرضا إلى الرضا أو الرضا إلى الرضا أو الرضا إلى الرضا.
- من الممكن أن تكون إرشادات الجهات وأخرى من بيانات نظام التوضيح العالمي أو بيانات التثبيت، بما في ذلك البيانات المتعلقة بموقع الهاتف غير متوفرة، غير دقيقة، أو غير كاملة.
- (إن أمكن) لا تدرسي أو تنظف المنتج العاص بك أثناء شحنه.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

- Simpanlah petunjuk ini.
- Jangan mencoba untuk membuka, membongkar, atau mengatak-utik Produk. Zat yang terkandung dalam produk ini dan/atau dalam baterainya dapat merusak lingkungan dan/atau kesehatan manusia jika tidak ditangani dan dibuang dengan benar.
- Jangan menggunakan Produk dalam keadaan yang dapat menyebabkan situasi berbahaya, seperti menggunakan Produk sementara mengoperasikan mesin berat atau mengendarai kendaraan yang bergerak dengan cara yang mungkin menyebabkan Anda mengalihkan mata Anda dari jalan atau begitu larut dalam aktivitas tersebut sehingga kemampuan Anda untuk berkonsentrasi pada kegiatan berkendara menjadi terganggu.
- Jangan memaparkan Produk ke suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sinar matahari langsung untuk waktu yang lama, atau ke tekanan air tinggi.
- Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan produk; komponen-komponen kecilnya dapat menimbulkan bahaya terhadap Produk ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan yang bisa mengakibatkan kematian, cedera, atau kerusakan lingkungan yang parah karena kegagalan Produk.
- Data peta, arah, dan navigasi maupun data GPS lainnya, termasuk data yang berkaitan dengan lokasi Anda saat ini, mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap.
- (Jika berlaku) Jangan memakai atau membersihkan Produk saat Anda mengisinya.

安全上の重要な注意事項

- これらの注意事項をお守りください。
- 製品(本製品)を開けたり、分解または改造しないようにしてください。本製品や電池に含まれる物質は、不適切な取り扱いまたは廃棄によって環境を破壊したり、人体に影響を及ぼす恐れがあります。
- 重機操作中や移動車両の運転中に道路から目を離したり、本製品の操作や視線に没頭するあまり運転中の集中力が低下する状況で本製品を使用するなど、危険を招く状況ではご使用にならないでください。
- 本製品は、極端な高温や低温、長時間の直射日光、または高い水圧にさらさないでください。
- 本製品でお子様を遊ばせないようにしてください。小さな部品を飲み込むと、窒息を引き起こす恐れがあります。
- 本製品が故障している場合は、生命や人体または環境に深刻な被害を及ぼす恐れがあるため、ご使用にならないでください。
- お客様の現在地に関するデータを含む、地図、方向、その他のGPSデータまたはナビゲーションデータは、電波受信の状況によっては利用不可、不正確または不完全な場合があります。
- 充電中に着用または洗浄しないでください(該当する場合)。感電する恐れがあります。

重要安全提示

- 保存这些提示。
- 请勿拆卸本产品。本产品及其电池含有的物质可能会对环境与/或人类健康造成危害，请正确处置。
- 不要在可能会引起危险的情况使用本产品。例如不得在操作重型机械时使用本产品，也不得在驾驶机动车辆时使用本产品，因为这样将引起您的视线离开道路或因注意力集中于产品使用而无法集中于驾驶活动。
- 不要让孩子产品曝露于极高或极低温度、持续接受阳光直射或者遭受高压水。
- 不得将产品交给儿童玩耍；产品的微小零件可能会引起窒息！

- 本产品不适用于如果产品出现故障则会引起死亡、人身伤害或严重环境危害的情况。
- 地图、方向和其他GPS或导航数据，包括与您的当前位置相关的数据，可能无法获得、不准确或者不完整。
- (对于需要充电的型号) 不要在充电时佩戴或清洗产品。

極為重要的安全說明

- 請妥善保管這些說明。
- 切勿試運行、拆開或者篡改「產品」。如果處理和處置不當，該產品所含的物質及/或其電池可能會危害自然環境及/或人身健康。
- 切勿在會造成危險環境的情形下使用「產品」，例如：在操作重型機械或者駕駛移動車輛時使用「產品」。這樣做可能會使您的目光離開路面或者由於全神貫注操作「產品」而影響駕駛行為。
- 請勿讓本產品長時間地受曝於極度高溫或低溫、持續直接陽光照射或是遭受高水壓。
- 切勿讓兒童把玩您的「產品」；其中的小組件可能會造成窒息！
- 不得在「產品」故障會導致死亡、人身傷害或重大環境損害的情況下使用「產品」。
- 地圖、方向及其他GPS或導航數據，包括關於您目前位置的数据，可能無法獲得、不準確或不完整。
- (如適用) 充電時，切勿佩戴或者清潔「產品」。

중요 안전 지침

- 이 지침을 따르십시오.
- 제품을 열거나 해체 또는 조작하려고 시도하지 마십시오. 이 제품이 내장된 물질 및/또는 배터리를 부적절하게 다루거나 파괴하면 환경 및/또는 인체 건강에 해로울 수 있습니다.
- 이 제품을 중장비나 움직이는 차량을 운전하면서 사용하는 등 위험한 상황이 발생할 수 있는 환경에서 사용하지 마십시오. 그러면 도로에서 눈을 떼게 되거나 운전에 집중하는 능력이 다른 데 집중하고 방해받을 수 있습니다.
- 제품을 지나친 고온/저온, 장시간의 직사광선, 높은 수압에 노출 시키지 마십시오.
- 절대론 어린이가 이 제품을 가지고 놀도록 방지하지 마십시오. 작은 부품은 때때로 질식사할 위험이 있습니다.
- 이 제품은 제품 고장으로 인한 부상 또는 심각한 환경에 해를 줄 수 있는 곳에서 사용되면 안 됩니다.
- 지도, 방향, 기타 GPS 또는 현재 위치와 관련된 데이터를 포함한 내비게이션 데이터는 사용할 수 없거나 부정확하거나 불안정할 수 있습니다.
- (해당할 경우) 제품을 충전하는 동안 제품을 착용하거나 청소하지 마십시오.

คำแนะนําด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้
- อย่าพยายามเปิด แกะส่วนประกอบหรือทำลายผลิตภัณฑ์ วัสดุที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์นั้นและ/หรือแบตเตอรี่อาจสร้างความเสี่ยงหากไม่ได้รับการจัดการและทำลายอย่างเหมาะสม
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนได้ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งานเครื่องจักร กลไกหรือขณะขับขี่ยานพาหนะที่เคลื่อนที่หรือทำให้อุณหภูมิของร่างกายเกินขีดจำกัด
- อย่านำทารกของเล่นในทางที่มีล้อไว้ในรถที่ขับเคลื่อน
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อคน หรือความดันในสูง
- อย่าเอาวัตถุที่เคลื่อนที่กับผลิตภัณฑ์, ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาจไปเกิดอันตรายตามร่างกายได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานมากกว่าการใช้งานเพื่อผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์
- แผนที่ ที่หาและข้อมูล GPS ที่มีการทำางอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานได้ ไม่แนะนำวิธีใดก็ตาม
- (หากมี) อย่าสวมหรือทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของขณะระหว่างชาร์จ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Сохраните эти инструкции.
- Не пытайтесь открывать или разбирать это Изделие или иным образом вмешиваться в его работу. Вещества, содержащиеся в этом Изделии и/или его батарее, могут повредить окружающей среде или здоровью человека, если с ними неправильно обращаться и неправильно их утилизировать.
- Не используйте Изделие в условиях, которые могут привести к возникновению опасной ситуации. К таким условиям относится использование Изделия при управлении тяжелым оборудованием или за рулем движущегося автомобиля таким образом, который может заставить вас отвести взгляд от дороги или настолько увлечься деятельностью, что вы не сможете сосредоточиться на процессе вождения.
- Не подвергайте Изделие воздействию крайне высоких или низких температур, прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени или воды под высоким давлением.
- Никогда не позволяйте детям играть с Изделием, поскольку его компоненты малого размера могут создать опасность удушья!
- Изделие не предназначено для использования в ситуациях, когда его неисправность может привести к смерти, травме или причинить серьезный ущерб окружающей среде.
- Карты, маршрутные указания и иные данные GPS и данные навигации,

включая данные, касающиеся вашего текущего местоположения, могут оказаться недоступными, неточными или неполными.

- (Если применимо) Не надевайте и не очищайте ваше Изделие во время зарядки.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Păstrați aceste instrucțiuni.
- Nu încercați să deschideți, să dezasamblați sau să modificați produsul. Substanțele din acest produs și/sau din baterie pot afecta mediul înconjurător și/sau sănătatea umană dacă sunt manipulate și eliminate în mod necorespunzător.
- Nu utilizați produsul în circumstanțe care ar putea provoca o situație periculoasă, cum ar fi utilizarea produsului în timpul exploatarii utilajelor grele și nu conduceți un vehicul în mișcare într-un mod care v-ar putea distragă atenția de la drum sau v-ar putea capta atenția asupra activității, afectându-și capacitatea de concentrare asupra condusului.
- Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, la lumina solară directă pentru o perioadă îndelungată de timp sau la apă cu presiune ridicată.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu produsul; componentele mici pot genera pericol de sufocare!
- Produsul nu va fi utilizat dacă defecțiunea poate conduce la deces, vătămare corporală sau poate afecta grav mediul înconjurător.
- Hărțile, instrucțiunile și alte date GPS sau de navigare, inclusiv datele și referințele la locația dvs. curentă, pot fi indisponibile, inexacte sau incomplete.
- (Dacă este cazul) Nu purtați produsul sau nu îl curățați în timp ce acesta se află la încărcat.

DUŠEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tyto pokyny si uschovejte.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat, rozebírat, ani s ním jinak manipulovat. Látky obsažené v tomto výrobku a/nebo jeho baterii mohou při nesprávném zacházení a likvidaci poškodit životní prostředí a/nebo lidské zdraví.
- Nepoužívejte výrobek za okolností, které by mohly způsobit nebezpečnou situaci, například při obsluhování těžkých strojů nebo řízení pohyblivého se vozidla, kdy byste mohli přestat sledovat vozovku nebo se jinak nechali vtáhnout do činnosti a vaše schopnost soustředit se na řízení by byla narušena.
- Nevystavujte výrobek extrémně vysokým teplotám, přímému slunečnímu světlu po delší dobu nebo vysokému tlaku vody.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s výrobkem. Malé součásti mohou představenému nebezpečí udušení!
- Výrobek není určen k použití tam, kde jeho selhání může vést k úmrtí, zranění nebo vážnému poškození životního prostředí.
- Mapy, pokyny k cestě a další údaje GPS nebo navigace, včetně údajů týkajících se vaší aktuální polohy, mohou být nedostupné, nepřesné nebo neúplné.
- (Je-li to na místě) Nenoste a nečistěte výrobek v době, kdy jej nabíjíte.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Hãy giữ hướng dẫn này.

Không mở, tháo hoặc làm giả mà Sản phẩm. Các vật liệu bên trong sản phẩm này và/hoặc pin của nó có thể làm tổn hại đến môi trường và/hoặc sức khỏe con người nếu không được xử lý đúng cách.

Không sử dụng Sản phẩm trong những trường hợp có thể gây ra tình huống nguy hiểm, ví dụ như sử dụng Sản phẩm trong khi vận hành máy móc lớn hoặc điều khiển phương tiện đang di chuyển theo cách có thể khiến bạn rời mắt khỏi đường đi hoặc chú ý vào hoạt động đến mức khả năng tập trung lái xe bị suy giảm.

Không để Sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, hoặc áp lực nước lớn.

Không bao giờ cho phép trẻ em chơi với sản phẩm, các linh kiện nhỏ có thể gây ra hóc!

Sản phẩm không được sử dụng ở nơi mà việc sản phẩm hỏng hóc có thể dẫn tới chết người, chấn thương hoặc tổn hại nghiêm trọng tới môi trường.

Bản đồ, hướng đi và các dữ liệu điều hướng hoặc GPS khác, bao gồm các dữ liệu liên quan tới vị trí hiện tại của bạn, có thể không hiển thị, hiển thị không chính xác hoặc không trong ven.

(Nếu có) Không đeo hoặc vệ sinh Sản phẩm trong khi đang sạc.

IMPORTANT HEALTH PRECAUTIONS

Use of the Product is solely at your own risk. We do not make any representations, warranties or promises about the accuracy, reliability or effectiveness of any of the Product's functions or services, including without limitation, the number of steps you've taken, calories burned, sleep quality or duration, heart rate (if applicable), and other information. The Product is intended to provide a reasonable approximation of information such as pace, steps, calories burned, distance covered, heart rate (if applicable) and sleep. However, the Product relies on the accuracy of the information you input, uses algorithms that are not necessarily perfect and is subject to other factors beyond our control. For instance while the heart rate monitor may typically provide an accurate estimate of a user's heart rate, there are inherent limitations with the technology that may cause some of the heart rate readings to be inaccurate under certain circumstances, such as the fit of the device, physiology of the user and the type and intensity of the activity. We do not guarantee that the information provided by the Product is 100% accurate. The Product will not precisely track each calorie burned or each step taken, and will not precisely report pace, distance covered, heart rate, or sleep.

The Product, including any included software, is not a medical device and is intended for fitness purposes only. It is not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease. Always seek the advice of a qualified medical professional before making any changes to your exercise, sleep, or nutrition, as doing so may cause severe harm or death.

Prolonged rubbing and pressure can irritate the skin. You may be more likely to experience irritation from any wearable device if you have allergies or other sensitivities. Please take special care to keep the device clean as the combination of sweat and dirt may also cause skin irritation.

Persons with implanted medical devices should:

- (If applicable) Consult your physician before using a heart rate monitor.
- Keep the Product more than 20 centimeters away from their medical device when the Product is turned on.
- Do not wear the Product if you notice any interference.
- Never carry the Product in their breast pocket.
- Use the wrist option of the implanted medical device to minimize potential for RF interference.

FOR PRODUCTS WITH RECHARGEABLE BATTERIES

The charging dock is designed for tabletop use. Avoid placing the charger in direct sunlight. To be compliant with RF exposure guidelines

and to avoid interference with implanted medical devices, maintain a distance of at least 15 centimeters

(approximately 6 inches) from the charging dock.

WARNING! Use of non-approved battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

WARNING! Certain items are fitted with lithium batteries that may contain perchlorate material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for more information.

Do not attempt to replace the Product's battery. It is built-in and not changeable. The battery should be serviced only by Fossil Group authorized service centers.

Batteries (and all electronic equipment) must be recycled or disposed of separately from household waste.

Do not dispose of your Product in a fire. The battery could explode.

The Product uses a California Energy Commission battery charger.

NOTE THE FOLLOWING WHEN USING DISPLAY/TOUCH-SCREEN DEVICES

WARNING REGARDING DISPLAY The display on your device is made of glass or acrylic and could break if your device is dropped or if it receives significant impact. Do not use if screen is broken or cracked as this could cause injury to you.

WARRANTY DISCLAIMER: PROPER USE OF A TOUCH-SCREEN DEVICE. If your device has a touch-screen display, please note that a touch screen responds best to a light touch from the pad of your finger or a non-metallic stylus. Using excessive force or a metallic object when pressing on the touch-screen may damage the tempered glass surface and void the warranty. For more information, please refer to the "Standard Limited Warranty."

IMPORTANT! Do not allow the touch-screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.

Product specific regulatory information, certification, and compliance marks can be found on this product. Go to Settings > System > About > Regulatory Information.

For additional information see Regulatory Notices or visit <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VIKTIGE SUNDEHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER

Den brug af Produktet sker på helt egen risiko. Vi giver ikke nogen erklæringer, garantier eller løfter om nøjagtigheden, pålideligheden eller effektiviteten af nogen som helst af Produktets funktioner eller servicenyddelser, herunder, uden begrænsning, antallet af skridt du har taget, forbrændte kalorier, søvnkvalitet eller -varighed, puls og andre informationer. Produktet er beregnet til at give en rimelig tilnærmet information om f.eks. tempo, skridt, forbrændte kalorier, tilbagelagt afstand, puls og søvn. Men Produktet er afhængig af nøjagtigheden af de oplysninger, du indtaster, og anvender algoritmer, der ikke nødvendigvis er perfekte, og er påvirket af andre faktorer uden for vores kontrol. For eksempel kan pulsmåleren typisk give et præcist skøn over en brugers puls, men teknologien har indbyggede begrænsninger, der under visse omstændigheder kan forårsage unøjagtighed af nogle af pulsmåleringens, såsom hvordan enheden sidder på brugeren, brugers fysiologi og typen og intensiteten af aktiviteter. Vi garanterer ikke, at de oplysninger, som Produktet giver, er 100 % korrekte. Produktet vil ikke præcist måle hver forbrændt kilokalorie eller hvert skridt, du tager, og vil ikke præcist vise tempo, tilbagelagt afstand, puls eller søvn.

Produktet, inklusiv enhver inkluderet software, er ikke medicinsk udstyr, og er kun beregnet til fitness-formål. Det er ikke designet, eller beregnet til brug ved, at diagnosticere sygdom eller andre tilstande, eller til helbredelse, afhjælpning, behandling eller forbyggelse af sygdom. Søg altid kvalificeret lægehjælp inden du foretager ændringer i træning, søvn eller ernæring, da dette kan forårsage alvorlig skade eller død.

Længevarende gnidning og tryk kan irritere huden. Hvis du har allergier eller anden overfølsomhed, vil du med store sandsynlighed opleve hudirritation fra enhver form for wearable enhed. Vær varsomt ekstra omhyggeligt med at holde enheden ren da kombinationen af sved og støvs også kan forårsage hudirritation.

PERSONER MED INDERERET MEDICINSK UDSYR BØR:

- (Hvis relevant) Snak med din læge, inden du bruger en pulsmåler.
- Hold produktet mere end 20 centimeter fra deres medicinske udstyr når produktet er tændt.
- Aldrig bær produktet i deres brystområde.
- Anvend håndledets modstet det indopererede medicinske udstyr for at minimere risikoen for RF-interferens.
- Bær ikke produktet hvis du bemærker interferens.

KUN FOR PRODUKTER MED GENOPLADELIGE BATTERIER

Opladnings-døken er beregnet til brug på bordflade. For at være i overensstemmelse med retningslinjerne for RF-eksponering og for at undgå interferens med indopereret medicinsk udstyr, hold en afstand på mindst 15 centimeter (ca. 6 tommes) fra opladnings-døken.

ADVARSEL! Brug af batteri og oplader som ikke er godkendt, kan give risiko for brand, eksplosion, leakage eller anden fare.

ADVARSEL! Visse objekter indeholder litium-batterier, som kan indeholde perchlorat-materiale – særlig håndtering kan være påkrævet. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for flere oplysninger.

Forstå ikke at udfiske dit produkts batteri. Det er indbygget og ikke udfiskeligt. Batterier bør kun serviceres af Fossil Group-autoriserede servicecentere.

Batterier (og alt elektronisk udstyr) må ikke smides i husholdningsaffald.

Brænd ikke dit produkt ved bortskaffning. Batterier kan eksplosive.

BEMÆRK FØLGENDE NÅR DER ANVENDES ENHEDER MED TOUCH-SKÆRM

ADVARSEL ANGÅENDE SKÆRM: Din enheds skærm er fremstillet af glas eller akryl og kan gå i stykker, hvis din enhed tages eller får et kraftigt slag. Brug ikke skærmen hvis den er adskilt eller ender på det sted kan skade dig.

ADVARSEL-ANVARSFRASKRIVELSE: PÅSÆT BRUG AF ENHED MED TOUCH-SKÆRM. Hvis din enhed har en berøringsskærm, så vær opmærksom på at touch-skærmen responderer bedst på et let tryk fra din fingerspids eller en ikke-metallisk stylus. Brug af overdreven kraft eller metalobjekt, når der trykkes på touch-skærmen, kan beskadige den hærdede glasoverflade og udydigge garantien. For flere oplysninger se den "Begrænsede Standardgaranti."

VIKTIGT! Lad ikke touch-skærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk affladning kan forårsage fejlfunktion i skærmen.

For yderligere information se regulationsbemærkninger eller besøg <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

BEHANDLING AF INFORMATION MED BETREKNING TIL UW GEZONDHEID

Het gebruik van het product is uitsluitend op uw eigen risico. Wij geven geen verklaringen, garanties of toezegingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of doeltreffendheid van enige functies of diensten, waaronder, en zonder beperking, het aantal stappen dat u hebt gemaakt, de verbrande calorieën, de slaapqualiteit of slaapduur, de hartslag en andere informatie. Het product is bestemd voor het verstrekken van een redelijke benadering van informatie zoals tempo, stappen, verbrande calorieën, afstand, hartslag en slaap. Echter, het product is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de informatie die u opgeeft en algoritmes die niet noodzakelijkerwijs perfect zijn en is onderhevig aan andere factoren buiten onze controle. De hartslagmeter geeft bijvoorbeeld doorgaans een nauwkeurige schatting van de hartfrequentie. Er zijn echter inherente beperkingen aan de technologie waardoor de hartslagmetingen onnauwkeurig kunnen zijn en beïnvloed kunnen worden door andere factoren, zoals de pasvorm van het apparaat, de fysieke vorm van de gebruiker en het type en de intensiteit van de activiteit. Wij garanderen niet dat de informatie die het product wordt geleverd 100% betrouwbaar is. Het product zal niet precies elke verbrande calorie of elke stap registreren en zal geen exacte informatie geven van tempo, afstand, hartslag of slaap.

Het product, inclusief de meegeleverde software, is geen medisch apparaat en is uitsluitend bedoeld voor fitness-doelstellingen. Het product is niet ontworpen of bedoeld voor de diagnose, behandeling, preventie of genezing van ziektes of aandoeningen. Vraag altijd het advies van een arts voordat u veranderingen aanbrengt in uw trainingschema, slaapritme of voedingspatroon, omdat dit de dood of ernstig letsel kan veroorzaken.

Langdurige wrijving of druk kunnen de huid irriteren. U hebt meer kans irritaties te ervaren met eender wel draagbaar apparaat als u allergieën of andere gevoeligheidshebt. We raden u aan om het horloge met veel zorg schoon te houden, want de combinatie van water en vuiligheid kan ook huidirritaties veroorzaken.

AANWIJZING VOOR PERSONEN MET MEDISCHE IMPLANTATEN:

- (Indien van toepassing) Raadpleeg uw arts voordat u een hartslagmeter gaat gebruiken.
- Houd het product meer dan 20 centimeter uit de buurt van het implantaat wanneer het product aan staat.
- Draag het product niet in de borstzak.
- Draag het product om de poels tegenover het gemplanteerde medicische apparaat om mogelijke RF-interferentie te minimaliseren.
- Stop met het dragen van het product als u interferentie bemerkt.

ALLEEN VOOR OPLAADBARE PRODUCTEN

Het oplaadstation is ontworpen voor gebruik op een tafelblad. Niet te voldoen aan richtlijnen voor RF-blootstelling en om interferentie met gemplanteerde medicische apparaten te voorkomen, moet u minimum 15 cm (ongeveer 6 inch) afstand tot het oplaadstation bewaren.

WAARSCHUWING! Het gebruik van batterijen of laders die niet door zijn goedgekeurd, geeft een risico op brand.

explosie, lekkage of ander gevaar.

WAARSCHUWING! Bepaalde items zijn uitgerust met lithium-batterijen en kunnen perchloraatmateriaal bevatten. Deze producten moeten mogelijk speciaal behandeld worden. Kijk op www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate voor meer informatie.

Probeer niet zelf de ingebouwde batterij te vervangen. De batterij is vast ingebouwd en kan niet worden vervangen. De batterij kan alleen worden vervangen in geautoriseerde servicecenters van Fossil Group.

Batterijen (en alle elektronische apparatuur) moeten worden gerecycled of worden geschieden van huishoudelijk affval.

Goet het product niet in open vuur. De batterij kan ontloffen.

OPMERKING BIJ HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN MET DISPLAY OF TOUCHSCREEN

WAARSCHUWING OVER HET DISPLAY. Het display op het apparaat is gemaakt van glas of plastic en kan breken bij stoten of als het apparaat valt. Gebruik het apparaat niet als het display gebroken of gebarsten is, omdat dit tot letsel kan leiden.

UITSLUITING- CORRECT GEBRUIK VAN HET TOUCHSCREEN. Als uw apparaat beschikt over een touchscreen-scherm, houd er dan rekening mee dat een touchscreen het beste reageert op een lichte aanraking van de vinger of een niet-metalen pen. Het gebruik van buitensporig geweld of een metalen voorwerp op het touchscreen kan het glazenoppervlak beschadigen en hiertoe vervalt de garantie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over de Standard Garantie.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat het touchscreen niet in aanraking komt met elektrische objecten. Elektrostatische ontladingen kunnen ervoor zorgen dat het display niet juist werkt.

Zie de Wetfelijke Voorschriften voor meer informatie of bezook <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VIKTIGE HÅLSØFØRESKRIFTER

Den anvindning af Produkten sker helt på egen risk. Vi går inte några uttællinger, garantier eller løfter om presisjon, tilførlighet og effektivitet i någon av Produkterns funktioner eller tjänster, inklusive, utan begrænsning, antalet steg du har tagit, brändta kalorier, sömnkvalitet eller varaktighet, puls eller annan information. Produkten ska ge en rimlig uppskattning av information såsom tempo, steg, brändta kalorier, avvekat sträcka, puls och sömn. Produkten förlit sig på riktigheten i de uppgifter som du matar in, använder informationen



som inte nödvändigtvis är perfekta och är föremål för andra faktorer utom vår kontroll. Medan pulsmätaren vanligtvis är som en exakt uppskattning av en användares puls, finns det exempelvis inbyggda begränsningar i tekniken som kan resultera i att vissa pulsavläsningar är felaktiga under vissa omständigheter, såsom enhetsanpassning, användarens fysikologi och aktivitetsstyp och intensitet. Vi garanterar inte att den information som tillhandahålls av Produkten är 100 % rätt. Produkten kommer inte precisi följa varje kalle som förbräns eller varje steg som tas, och kommer inte att precisi rapportera tempo, avveckat stricka, puls eller sömn.

Produkten, inklusive eventuella medföljande programvara, är inte en medicinteknisk produkt och är endast avsedd för träningsändamål. Den är inte utformad eller avsedd för användning vid diagnos av sjukdomar eller andra tillstånd, eller för att tota, lindra, behandla eller förbygga sjukdomar. Sök alltid rådgivning från kvalificerad vårdpersonal innan du gör några ändringar i din träning, sömn eller kost eftersom att göra det kan orsaka allvarlig skada eller dödslid.

Tryck och friktion över tid kan iritera huden. Du kan vara mer benägen att uppleva irritation av kombination av att ha dig på barbara enheter om du har allergier eller andra känsligheter. Varningar var extra nogna med att hålla enheten ren, eftersom att smuts och smuts kan orsaka hudirritation.

PERSONER MED IMPLANTERADE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER BÖR:

- (Om tillämplig) Rådög med din läkare innan du använder en pulsmätare.
- Håll värt produkt minst 20 centimeter från den medicintekniska produkten när den är påslagen.
- Aldrig bär produkten i bröstfåkan.
- Använda handleden på motstånds bånd innan implanterade medicintekniska produkten för att minimera risken för RF-störningar.
- Inte använda produkten om eventuella störningar uppstår.

ENDAST FÖR PRODUKTER MED LADDNINGSBÄRA BATTERIER

Laddningsdockan är avsedd för bordsbruk. För att följa riklinjerna för RF-strålning och för att undvika störningar av implanterade medicintekniska produkter ska ett avstånd på minst 15 centimeter hållas till laddningsdockan.

VARNING! Användning av batterier eller laddare som inte godkänns av kan innebära risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

VARNING! Vissa artiklar innehåller litium-batterier som kan innehålla materialet perklorat vilket kan innebära särskild hantering. Se www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate för ytterligare information.

Försök inte att ersätta din produkt batteri. Det är inbyggd och inte utbytbar. Batterier bör endast ses av Fossil Group auktoriserade serviceteam.

Batterier (och all elektronisk utrustning) måste återvinnas eller avyttras separat från hushållsavfall. Använd inte produkten genom bränning. Batteriet kan explodera.

OBSERVER FÖLJANDE NÄR DU ANVÄNDER DISPLAY/PEKSÄRMSENHETER.

VARNING GÄLLANDE DISPLAY Din enhets display är gjord av glas eller akryl och kan gå sönder om du tappat din enhet eller den får rejäl stöt. Använd inte skärmen om den är trasig eller sprucken då detta kan orsaka personskador.

GARANTIFRSKRIVNING KORREKT ANVÄNDNING AV EN PEKSÄRMSENHET. Observera att om din enhet har en pekskärm svarar denna bäst på en lätt beröring från din fingertopp eller en icke-metallisk pekpenna. Överdriven kraft eller metalliska föremål som används för att peka på skärmen kan skada det hårda glaset och göra garanterat ogiltigt. Se "Begränsad standardgaranti" för mer information.

VIKTIGT! Se till att pekskärmen inte kommer i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen slutar fungera.

För ytterligare information se föreskrifter eller besök <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VIKTIGE HELSEMESSIGE FORHOLDSREGLER

All bruk av produktet säker utelämnad på egen risk. Vi kommer ikke med noen form for påstand, garanti eller løfter om nøyaktighet, påliteligheten eller effektiviteten til noen av produktets funksjoner eller tjenester. Dette omfatter, uten begrensning, antall skritt du har tatt, kaloriforbruk, vannkvalitet og -mengde, puls og annen informasjon. Produktet er ment å skulle gi deg et rimelig anslag over f.eks. tempo, skritt, kaloriforbruk, tilbakelagt distanse, puls og søvn. Produktet er imidlertid avhengig av nøyaktigheten til informasjonen du legger inn, det bruker algoritmer som ikke nødvendigvis er perfekte, og det er avhengig andre faktorer som ligger utenfor vår kontroll. For eksempel kan pulsmåteren vanligvis gi en nøyaktig estimat av brukeres puls, men teknologien har lovende begrensninger som kan forårsake at avlesingen av pulsen kan være unøyaktig under visse omstendigheter, for eksempel hver godt enheten sitter, brukeres fysiologi og aktivitetsens type og intensitet. Vi garanterer ikke at informasjonen fra produktet er 100 % nøyaktig. Produktet vil ikke nøyaktig spore hver forbrøt kalorie eller hver skritt man tar, og det vil ikke rapportere tempo, tilbakelagt distanse, puls eller søvn fullstendig nøyaktig.

Produktet, inkludert eventuelt medfølgende programvare, er ikke et medisinsk apparat, og er beregnet for treningsformål. Det er ikke utformet eller beregnet for bruk ved diagnosestening av sykdom eller andre forhold, eller til helbredelse, lindring, behandling eller forebygging av sykdom. Søk alltid råd fra en kvalifisert medisinsk fagperson før du gjør noen endringer i trening, søvn, ernæring, da dette kan forårsake alvorlig skade eller død.

Langvarig friksjon og press mot huden kan være irriterende på den. Det er større sannsynlighet for å oppleve irritasjon fra barbare enheter hvis du har allergier eller hudplager. Vær nøye med å holde enheten ren, siden kombinasjonen av svette og smuss kan forårsake hudirritasjon.

PERSONER MED IMPLANT BÖR:

- (Hvis aktuell) Rådög med lege før du bruker en pulsklokke.
- Hölde minst 20 cm avstand från den medicinske enheten när produktet er skrudd på.
- Bär aldrig produktet i bröstfåkan.
- Bruk håndledetet motsatt av implanterat for å minske muligheten for RF-förstyrrelser.
- Ikke bruk produktet hvis du merker forstyrrelser eller interferens.

KUN FÖR PRODUKTER MED OPPLADBARA BATTERIER

Dokkingstationen är utformad för bruk på bordet. För att vara i samsvar med retringslinjerna för RF-exponering och för att undvika interferens med medicinska implantat, må man hålla en avstånd på minst 15 cm (ca. 6 tommar) fra dokkingstationen.

AVVARSSEL! Bruk av ikke-godkjennte batterier eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

ADVARSEL! Enkelt bruk av utstyrt med litium-batterier som kan inneholde perklorat – spesielt håndtering kan gjelde. Se www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for mer informasjon.

Ikke forsøk å erstatte produktbatteriet. Det er inbyggd og ikke byttes ut. Batteriet skal kun repareres av Fossil Group autoriserte serviceteam.

Batterier (og alt elektronisk utstyr) må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfall.



Ikke kast produktet i en brann. Batteriet kan eksplodere.

LEGG MERKE TIL FÖLGENDE NÄR DU BRUKER ENHETER MED SKJERM/BERÖRINGSKJERM

ADVARSEL OM SKJERM Skjermen på enheten er laget av glass eller akryl og kan knuses hvis enheten mistes eller hvis den møtter et betydelig støt. Må ikke bruke skjermen eller knust eller spruket, da dette kan føre til personskader.

GARANTIFRSKRIVELSE: RIKTIG BRUK AV EN ENHET MED BERÖRINGSKJERM. Hvis enheten har en beröringskjerm, bruk overoppmerksom på at skjermen svarer best på en lett berøring fra puten av fingeren eller en ikke-metallisk penn. Bruk overdriven makt eller en metallgenstand, når du trykker på beröringskjermen kan skade glassoverflaten og gjøre garantien ugyldig. For mer informasjon, vennligst se "standard begrenset garanti".

VIKTIG! Ikke la beröringskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatiske utladninger kan føre til at beröringskjermen svikter.

For mer informasjon, se Regulatory Notice eller <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VIKTIGE GESUNDHETSFORSGEMÅTNAHMER:

Her brukning av dette produktet er utført utelukkende på ditt eget ansvar. Vi gir ingen garanti, garanti eller Verdensbeskrivelse av nøyaktighet, pålitelighet eller Virksomhet av funksjoner eller Services av Produkter, einschließlich, ohne Einschränkung, der Anzahl der gemachten Schritte, verbrannter Kalorien, Schlafqualität oder -dauer, Herzfrequenz und anderer Informationen. Das Produkt ist dazu gedacht, angemessene Informationen wie Tempo, Schritte, verbrannte Kalorien, zurückgelegte Entfernung, Herzfrequenz und Schlaf bereitzustellen. Das Produkt hängt jedoch von der Genauigkeit der Informationen ab, die Sie eingeben. Es nutzt Algorithmen, die nicht zwangsläufig perfekt sind und es unterliegt anderen Faktoren außerhalb seiner Kontrolle. Obwohl wir das Bestmaß an Herzfrequenzmessung normalerweise eine zutreffende Schätzung der Herzfrequenz bietet, bestehen natürlich Beschränkungen bezüglich der Information. Diese können dazu führen, dass einige der Herzfrequenzmessungen unter bestimmten Umständen wie aufgrund der Passform des Gerätes, der Physiologie des Nutzers und der Art und Intensität der Aktivität ungenau sein können. Wir garantieren nicht, dass die Informationen, die vom Produkt bereitgestellt werden, 100 % zutreffend sind. Das Produkt wird nicht jede verbrannte Kalorie oder jeden gemachten Schritt präzise tracken. Es wird auch nicht Tempo, zurückgelegte Entfernung, Herzfrequenz oder Schlaf genau berechnen.

Das Produkt sowie die zugehörige Software sind keine medizinischen Geräte und ausschließlich für Fitness-Zwecke ausgelegt. Sie sind nicht zur Diagnose einer Erkrankung oder anderer Zustände gedacht oder ausgelegt. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Ihre sportliche Betätigungen, Schlaf oder Ernährung umstellen, da dies schwere Gesundheitsrisiken oder sogar Tod verursachen kann.

Dauerhaftes Reiben und dauerhafter Druck können die Haut reizen. Wenn Sie das Gerät etwas allerschlagig bist oder auf etwas empfindlich reagierst, bestell bei jedem tagbaren Druck eine größere Watscheinchen für Hautreizen. Achte besonders darauf, dass du das Gerät sauber hältst, da die Kombination von Schweiß und Schmutz ebenfalls Hautreizen verursachen kann.

PERSONER MIT IMPLANTIERTE MEDIZINISCHEN GERÄTEN SOLLTEN:

- (Falls zutreffend) Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Herzfrequenzmessgerät nutzen.
- Das zugehaltene Produkt mehr als 20 cm von dem medizinischen Gerät entfernt halten.
- Das Produkt niemals in ihrer Brusttasche tragen.
- Das Handgelenk gegenüber dem implantierten medizinischen Gerät tragen, um potenzielle RF-Interferenzen zu minimieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn Sie Interferenzen merken.

NUR FÖR PRODUKTE MIT AUFLADBAREN AKKUS

Die Ladestation wurde für den rechtmäßigen Betrieb entworfen. Bitte halten Sie wenigstens 15 cm (ca. 6 Inch) Abstand von der Ladestation, um den RF-Richtlinien zum Strahlenschutz zu entsprechen und Störungen von implantierten medizinischen Geräten zu vermeiden.

ACHTUNG! Die Verwendung von nicht-autorisierten Batterien oder Ladegeräten kann ein Feuer-, Explosions-, Auslauf oder anderen Gefahrenrisiko bergen.

ACHTUNG! Bestimmte Gegenstände sind mit Lithiumakkus ausgestattet, die Perchlorat enthalten können – besondere Handhabung kann notwendig sein. Lesen Sie www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate für weitere Informationen.

Versuchen Sie nicht, die Batterie Ihres Produktes auszuwechseln. Sie ist eingebaut und nicht auswechselbar. Die Batterie sollte nur von durch Fossil Group autorisierten Service-Centern gewartet werden.

Batterien (und jegliches elektronische Zubehör) muss recycelt oder vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.

Entsorgen Sie Ihr Produkt nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren.

BEACHTEN SIE DAS FÖLGENDE, WENN SIE GERÄTE VON MIT DISPLAY/ TOUCH-SCREENS VERWENDE

WARUNG BEZÜGLICH DES DISPLAYS: Das Display Ihres Gerätes ist aus Glas oder Akryl hergestellt und kann beschädigt werden, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder starken Stößen ausgesetzt wird. Verwenden Sie es nicht, wenn der Bildschirm zerbrochen oder gerissen ist, da Sie sich daran verletzen können.

HAUTGESCHÜTZ: ORDNUNGSGEMÄßER GEBRAUCH EINES GERÄTES MIT TOUCH-SCREEN. Wenn Ihr Gerät einen Touch-Screen hat, beachten Sie bitte, dass diese am besten auf leichten Druck durch Ihre Fingerkuppe oder einen nicht-metallischen Stift reagiert. Übermäßige Kraft oder ein metallisches Objekt können die Hartglasoberfläche beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die „beschränkte Standardgarantie“.

VIKTIG! Lassen Sie den Touch-Screen nicht in Kontakt mit anderen elektrischen Geräten kommen. Elektrostatische Entladungen können zu Störungen des Touch-Screens führen.

Für zusätzliche Informationen sehen Sie sich die Zulassungsbestimmungen an oder besuchen Sie <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PRÉCAUTIONS SANITAIRES IMPORTANTES

Votre utilisation du produit se fait à vos propres risques. Nous ne faisons aucune déclaration, garantie ou promesse concernant l'exactitude, la fiabilité ou l'efficacité des fonctionnalités ou des services du produit, y compris mais sans s'y limiter, le nombre de pas, les calories brûlées, la qualité ou la durée du sommeil, la fréquence cardiaque, etc. Le produit est destiné à fournir une approximation raisonnable des informations telles que l'allure, le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue, la fréquence cardiaque et le sommeil. Toutefois, le produit repose sur la précision des informations que vous indiquez, l'utilisation de algorithmes qui ne sont pas nécessairement parfaits et est soumis à d'autres facteurs indépendants de notre volonté. Par exemple, si le cardiofréquencemètre peut généralement fournir une estimation précise de la fréquence cardiaque, il peut y avoir des limitations inhérentes à la technologie qui peuvent entraîner une certaine inexactitude des données cardiaques dans certaines circonstances, telles que l'état de l'appareil, la physiologie de l'utilisateur et le type et l'intensité de l'activité. Nous ne garantissons pas que les informations fournies par le produit soient 100 % exactes. Le produit ne suivra pas précisément chaque calorie brûlée ou chaque pas réalisé et n'indiquera pas précisément le rythme, la distance parcourue, la fréquence cardiaque ou le sommeil.



Le produit, y compris tout logiciel inclus, n'est pas un appareil médical et n'est conçu que pour le fitness. Il n'est pas conçu pour diagnostiquer des maladies ou autres problèmes, ou pour soigner, soulager, traiter ou empêcher les maladies. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé avant de changer vos habitudes d'exercice, de sommeil, ou de nutrition, puisque ce changement pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

Un frotement ou une pression prolongés peuvent irriter la peau. Si vous avez des allergies ou d'autres sensibilités, il se peut que vous soyez plus susceptible de souffrir d'irritations causées par un appareil connecté. Veillez particulièrement à garder l'appareil propre car la combinaison de saur et de saleté peut également provoquer une irritation cutanée.

POUR LES PERSONNES ÉQUIPÉES D'IMPLANTS MÉDICAUX :

- (Les cas échéant) Consultez votre médecin avant d'utiliser un cardiofréquencemètre.
- Conserver le produit à une distance supérieure à 20 cm de vos implants médicaux lorsqu'il est allumé.
- Ne jamais transporter le produit dans une poche de chemise.
- Utiliser le poignet situé du côté opposé à l'implant médical pour minimiser les risques d'interférences radio.
- Ne jamais porter le produit si vous détectez des interférences.

SEULEMENT POUR LES PRODUITS ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE

La station de chargement est conçue pour être utilisée sur une table. Pour rester conforme avec les normes en matière de exposition aux fréquences radio et éviter les interférences avec les appareils médicaux implantés, ne vous approchez pas à moins de 15 cm de la station de chargement.

ATTENTION ! L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non approuvés par peut entraîner un risque d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

ATTENTION ! Certains produits sont équipés de batteries au lithium pouvant contenir du perchlorate - Certaines précautions d'utilisation pourraient être requises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Ne soyez pas de remplacer la batterie de votre produit. Elle est intégrée et n'est pas interchangeable. La batterie peut seulement être manipulée par des centres de réparation de Fossil Group.

Les batteries (comme tous les équipements électroniques) ne doivent pas être recyclées ou jetées avec les autres déchets ménagers. Ne jetez pas votre produit au feu. La batterie risquerait d'exploser.

PRENEZ CONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES APPAREILS À ÉCRAN / ÉCRAN TACTILE.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉCRAN. L'écran de votre appareil est constitué de verre ou d'acrylique et peut se casser en cas de chute en cas d'impact important. N'utilisez pas l'appareil si l'écran est cassé ou fendu car vous pourriez vous blesser.

EXCLUSION DE GARANTIE - UTILISATION APPROPRIÉE D'UN APPAREIL À ÉCRAN TACTILE. Si votre appareil dispose d'un affichage à écran tactile, n'oubliez pas qu'un écran tactile réagit mieux si vous l'effleurez du doigt ou si vous utilisez un stylet non métallique. Si vous appuyez trop fort ou utilisez un objet métallique pour faire fonctionner l'écran tactile, vous risquez d'endommager la surface en verre trempé et donc d'annuler la garantie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Garantie Limitée Standard ».

POINT IMPORTANT ! Évitez l'écran tactile d'entrer en contact avec d'autres appareils électroniques. L'électricité statique peut causer un dysfonctionnement de l'écran tactile.

Les informations réglementaires, la certification et les marques de conformité spécifique du produit figurent sur le produit. Allez sur Paramètres > Système > À propos > Renseignements réglementaires.

Pour plus de détails, consultez les Informations réglementaires ou visitez <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

IMPORTANTS PRÉCAUTIONS POUR LA SANTÉ

L'utilisation de questo Prodotto è a tua totale discrezione. Non dichiariamo, garantiamo o promettiamo che i servizi o le funzioni del Prodotto siano precisi, affidabili o efficaci, compresi, senza limitazione, i dati relativi a passi percorsi, calorie bruciate, qualità o durata del sonno, frequenza cardiaca e altri. Il Prodotto ha lo scopo di fornire delle informazioni ragionevolmente precise come passi, ritmo, calorie bruciate, distanza percorsa, frequenza cardiaca e sonno. Tuttavia, il Prodotto si basa sulle informazioni da te inserite, utilizza degli algoritmi non necessariamente perfetti ed è soggetto a fattori esterni, al di fuori di qualsiasi controllo. Per esempio, sebbene lo strumento di misurazione della frequenza cardiaca possa fornire una stima precisa del battito cardiaco di un utente, sussistono delle limitazioni inerenti alla tecnologia che potrebbero comportare delle letture imprecise, per motivi legati all'integrità del dispositivo, la fisiologia dell'utente ed il tipo di intensità dell'attività. Non garantiamo che le informazioni fornite dal Prodotto siano accurate al 100%. Il Prodotto non calcolerà precisamente ciascuna calorie bruciata o ciascun passo percorso e non indicherà precisamente il ritmo, la distanza percorsa, la frequenza cardiaca o il sonno.

Il prodotto, fra cui qualsiasi software incluso, non è un dispositivo medico ed è destinato unicamente al fitness. Tale dispositivo non è pensato né destinato a effettuare diagnosi di malattie o di altri disturbi, o per la cura, la mitigazione, il trattamento o la prevenzione di malattie. Consultare sempre un medico professionista qualificato prima di apportare modifiche agli esercizi, al sonno, all'alimentazione, in quanto tale modifica potrebbe provocare gravi lesioni o la morte.

Uno strofinamento o una pressione prolungati possono irritare la pelle. Hai più probabilità di essere soggetto ad irritazioni cutanee, provocate da un qualsiasi dispositivo indossabile, se soffri di allergie o altre sensibilità. Assicurati di mantenere il dispositivo pulito, in quanto anche la combinazione di sudore e sporizia potrebbe provocare delle irritazioni cutanee.

CONSIGLI AI PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI IMPLANTATI:

- (Se applicabile) Consulta il tuo dottore prima di utilizzare uno strumento di misurazione della frequenza cardiaca
- Tenere il prodotto acceso a più di 20 centimetri di distanza dal dispositivo medico.
- Non portare mai il prodotto nel taschino.
- Usare il polso opposto al dispositivo medico per minimizzare potenziali interferenze RF.
- Non indossare il prodotto se si nota un'interferenza.

PER PRODOTTI ALIMENTATI SOLO A PILE RICARICABILI

Il caricabatterie è realizzato per essere usato su un tavolo. Nel rispetto delle linee guida sull'esposizione RF e per evitare interferenze con i

dispositivi medici implantati, mantenere una distanza minima di 15 centimetri (approssimativamente 6 pollici) dai

caricabatterie.

ATTENZIONE! L'uso di una pila o un caricatore non approvati da possono causare il rischio d'incendio, esplosione, perdite o altri pericoli.

ATTENZIONE! Alcuni articoli sono dotati di batterie al litio che possono contenere materiale pericoloso, potrebbero richiedere un trattamento speciale. Per ulteriori informazioni visitare www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Non cercare di sostituire la pila del prodotto, è integrata e non può essere sostituita. La pila dovrebbe essere sostituita unicamente dai centri di servizio autorizzati di Fossil Group.



Le pile (e tutte le apparecchiature elettroniche) devono essere riciclate o smaltite separatamente rispetto ai rifiuti domestici. Non smaltire il prodotto nel fuoco. La pila potrebbe esplodere.

NOTARE QUANTO SEGUE QUANDO SI USANO I DISPOSITIVI CON DISPLAY/TOUCH-SCREEN

AVISO RELATIVO AL DISPLAY Il display del dispositivo è realizzato in vetro o acrilico e può rompersi se questo cade a terra o se riceve un forte impatto. Non usare se il display è rotto o incrinato in quanto potrebbe causare ferite.

ESCLUSIONE DELLA GARANTIA: USO CORRETO DI UN DISPOSITIVO DOTATO DI TOUCH-SCREEN. Se il dispositivo è dotato di un display touch, si prega di notare che il touch-screen risponde meglio a un leggero tocco dei polsotrattori di una sfilo non metallica. Usare forza eccessiva o un oggetto metallico quando si preme sul touch-screen, può danneggiare la superficie del vetro temperato e annullare la garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare la "Garanzia limitata convenzionale."

IMPORTANTE! Evitare che il touch-screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono provocare il malfunzionamento del touch-screen.

Per maggiori informazioni, consulta le note sulla normativa o la pagina <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PRENEZ CONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES APPAREILS À ÉCRAN / ÉCRAN TACTILE.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉCRAN. L'écran de votre appareil est constitué de verre ou d'acrylique et peut se casser en cas de chute en cas d'impact important. N'utilisez pas l'appareil si l'écran est cassé ou fendu car vous pourriez vous blesser.

EXCLUSION DE GARANTIE - UTILISATION APPROPRIÉE D'UN APPAREIL À ÉCRAN TACTILE. Si votre appareil dispose d'un affichage à écran tactile, n'oubliez pas qu'un écran tactile réagit mieux si vous l'effleurez du doigt ou si vous utilisez un stylet non métallique. Si vous appuyez trop fort ou utilisez un objet métallique pour faire fonctionner l'écran tactile, vous risquez d'endommager la surface en verre trempé et donc d'annuler la garantie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Garantie Limitée Standard ».

POINT IMPORTANT ! Évitez l'écran tactile d'entrer en contact avec d'autres appareils électroniques. L'électricité statique peut causer un dysfonctionnement de l'écran tactile.

Les informations réglementaires, la certification et les marques de conformité spécifique du produit figurent sur le produit. Allez sur Paramètres > Système > À propos > Renseignements réglementaires.

Pour plus de détails, consultez les Informations réglementaires ou visitez <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EXCLUSION DE GARANTIE - UTILISATION APPROPRIÉE D'UN APPAREIL À ÉCRAN TACTILE.

Si votre appareil dispose d'un affichage à écran tactile, n'oubliez pas qu'un écran tactile réagit mieux si vous l'effleurez du doigt ou si vous utilisez un stylet non métallique. Si vous appuyez trop fort ou utilisez un objet métallique pour faire fonctionner l'écran tactile, vous risquez d'endommager la surface en verre trempé et donc d'annuler la garantie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Garantie Limitée Standard ».

POINT IMPORTANT ! Évitez l'écran tactile d'entrer en contact avec d'autres appareils électroniques. L'électricité statique peut causer un dysfonctionnement de l'écran tactile.

ATTENTION ! Pour éviter d'endommager l'écran tactile, ne vous servez pas d'un objet pointu et n'exercez pas une pression du doigt excessif lorsque vous utilisez votre appareil.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SAÚDE

A sua utilização do Produto é da sua única e exclusiva responsabilidade. Não fazemos quaisquer representações, garantias ou promessas quanto à precisão, confiabilidade ou eficácia de qualquer uma das funções ou serviços do Produto, incluindo, sem limitação, o número de passos que deu, as calorias queimadas, a qualidade do sono ou a duração, o ritmo cardíaco ou outra informação. O Produto tem como objetivo fornecer uma aproximação razoável da informação tal como o ritmo, os passos, as calorias queimadas, a distância coberta, o ritmo cardíaco e o sono. Contudo, o Produto depende da precisão da informação que introduziu, utiliza algoritmos que não são necessariamente perfeitos e está sujeito a outros fatores para lá do nosso controlo. Por exemplo, embora o monitor de ritmo cardíaco possa fornecer uma estimativa precisa do ritmo cardíaco de um utilizador, existem limitações inerentes com a tecnologia que poderia causar que algumas das leituras do ritmo cardíaco sejam imprecisas em certas circunstâncias, tais como a colocação do dispositivo, a fisiologia do utilizador e o tipo e a intensidade da atividade. Não garantimos que a informação fornecida pelo Produto seja 100% precisa. O Produto não irá seguir com precisão cada caloria queimada ou cada passo dado e não irá reportar com precisão o ritmo, a distância coberta, o ritmo cardíaco ou o sono.

O Produto, bem como qualquer software incluído, não é um dispositivo médico e destina-se apenas à prática de ginástica. Não foi concebido e nem é adequado para ser utilizado no diagnóstico de doenças ou outros estados, ou na cura, atenuação, tratamento ou prevenção de doenças. Procure sempre o conselho de pessoal médico qualificado antes de realizar quaisquer alterações ao seu exercício, sono ou nutrição, dado que tal poderá causar danos severos ou morte.

Atrito e pressão prolongados podem irritar a pele. Pode ter mais probabilidade de experimentar irritação ao usar qualquer dispositivo portátil se tiver alergias ou outras sensibilidades. Por favor, tenha especial cuidado em manter o dispositivo limpo, pois a combinação de suor e sujeira também podem causar irritação na pele.

PESSOAS COM DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS DEVERÃO:

- (Se aplicável) Consulte o seu médico antes de utilizar um monitor de ritmo cardíaco.
- Manter o Produto a mais de 20 centímetros do seu dispositivo médico quando o Produto estiver ligado.
- Nunca transportar o Produto no bolso do peito.
- Utilizar no pulso oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar a potencial interferência de RF.
- Não usar o Produto se reparar em alguma interferência.

APENAS PARA PRODUTOS COM BATERIAS RECARGÁVEIS

A estação de carregamento foi concebida para funcionar com uma mesa. Para cumprir com as diretrizes de exposição a RF e para evitar interferência com dispositivos médicos implantados, mantenha uma distância de pelo menos 15 centímetros (aproximadamente 6 polegadas) da estação de carregamento.

AVISO! A utilização de uma bateria ou carregador não aprovado pela poderá representar risco de fogo, explosão, vazamento ou outro perigo.

AVISO! Certos artigos contêm baterias de lítio que poderão conter materiais de perclorato - poderá ser necessário um manuseamento especial. Veja www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate para mais informações.

Não tente substituir a bateria do seu Produto. É integrada e insubstituível. A bateria deverá ser trocada apenas por centros de serviço autorizados da Fossil Group.

As baterias (e todos os equipamentos eletrônicos) deverão ser reciclados ou eliminados separadamente do lixo doméstico. Não elimine o seu Produto com fogo. A bateria poderá explodir.



TEMA EM ATENÇÃO O SEQUINTE AO UTILIZAR DISPOSITIVOS COM ECRA/ECRĂ TĂCIL

AVISO EM RELAÇÃO AO ECRA É que do seu dispositivo é feito de vidro ou acrílico e poderá quebrar se o seu dispositivo cair ou sofrer um impacto considerável. Não o utilize se o ecrã estiver partido ou rachado, pois poderá magoar-se.

EXCLUSÕES DE GARANTIA: UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO DISPOSITIVO COM ECRA TĂCIL. Se o seu dispositivo tiver um ecrã tĂcil, por favor, tenha em atenção que o ecrã tĂcil responde melhor a um toque leve do ponto do dedo do que a uma caneta rĂbio-metĂlica. A utilização de força excessiva ou de um objeto metĂlico ao pressionar o ecrã tĂcil poderá danificar a superfície de vidro temperado e anular a garantia. Para mais informações, por favor, veja "Garantia PadrĂo Limitada".

IMPORTANTE! Não permita que o ecrã tĂcil entre em contacto com outros dispositivos elétricos. As descargas eletrostáticas poderão provocar o mau funcionamento do ecrã tĂcil.

Neste especifico do produto as informações sobre a regulamentação, a certificação e as marcas de conformidade. **Vis Configurações > Sistema > Sobre > Informações sobre a Regulamentação.**
Para mais informações, consulte os Avisos de Regulamentação ou visite <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PRECAUCIONES IMPORTANTES RELATIVAS A LA SALUD

El uso que usted haga del Producto es únicamente bajo su propia cuenta y riesgo. No declaramos, garantizamos ni prometemos nada en cuanto a la precisión, fiabilidad o efectividad de cualesquiera funciones o servicios del Producto, incluyendo, sin lĂmites, el nĂmero de pasos que ha dado, las calorías quemadas, la duración o la calidad del sueĂo, la frecuencia cardíaca y otra información. El producto estĂ diseĂado para ofrecer una estimación razonable de datos como el ritmo, los pasos, las calorías quemadas, la distancia cubierta, la frecuencia cardíaca y el sueĂo. Sin embargo, el Producto depende de la precisión de la información que usted introduzca, utiliza algoritmos que no son perfectos necesariamente y estĂ sujeto a otros factores que se escapan a nuestro control. Por ejemplo, aunque el monitor de la frecuencia cardíaca puede proporcionar normalmente una estimación precisa de la frecuencia cardíaca de un usuario, hay limitaciones inherentes a la tecnologĂa que podrĂan causar que algunas de las lecturas de la frecuencia cardíaca sean imprecisas en ciertas circunstancias, como el ajuste del dispositivo, la fisiologĂa del usuario y el tipo e intensidad de la actividad. No garantamos que la información ofrecida por el Producto sea precisa al 100 %. El Producto no harĂ un seguimiento de forma exacta de cada caloría quemada o cada paso dado ni informará de forma exacta del ritmo, la distancia recorrida, la frecuencia cardíaca o el sueĂo.

El Producto, incluido cualquier software que se incluya, no es un dispositivo mĂdico y estĂ pensado para utilizarse solamente en la prĂctica del ejercicio fĂsico. No estĂ diseĂado ni tiene por objeto diagnosticar enfermedades u otras afecciones, ni curar, aliviar, tratar o prevenir enfermedades. Busque siempre asesoramiento mĂdico profesional cualificado antes de realizar cualquier cambio en sus hĂbitos de ejercicio, dietas y alimentaciĂn; actĂue de otro modo podrĂa causar daĂos graves o incluso la muerte.

El roce y la presiĂn prolongada pueden irritar la piel. PodrĂa ser mĂs probable que sufra irritaciĂn por un dispositivo portable si tiene alergias u otras intolerancias. Por favor, tenga especial cuidado de mantener el dispositivo limpio, ya que la combinaciĂn de sudor y suciedad tambiĂn podrĂa causar irritaciĂn en la piel.

LAS PERSONAS CON DISPOSITIVOS MĂDICOS IMPLANTADOS DEBERĂN:

- (En caso de ser aplicable) Consulte a su mĂdico antes de utilizar un monitor de la frecuencia cardíaca.
- Mantener el Producto a mĂs de 20 centĂmetros de sus dispositivos mĂdicos cuando el Producto estĂ activado.
- No llevar nunca el Producto en los bolsillos del pecho.
- Usar la muela opuesta a la parte del cuerpo donde estĂ implantado el dispositivo mĂdico con el fin de minimizar las posibles interferencias por radiofrecuencia (RF).
- No llevar puesto el Producto en caso de que note interferencias.

SOLO PARA PRODUCTOS CON BATERÍAS RECARGABLES

La base de carga estĂ diseĂada para utilizarse sobre una mesa. Para cumplir con las normas de exposiciĂn a la radiofrecuencia (RF) y evitar interferencias con dispositivos mĂdicos implantados, mantĂngase alejado de la base de carga a una distancia al menos 15 centĂmetros (aproximadamente 6 pulgadas).

ADVERTENCIA! El uso de baterías o cargadores no aprobados por puede provocar peligro de incendio, explosiĂn y fugas, entre otros.

ADVERTENCIA! Determinados productos incluyen baterías de litio que pueden contener material de percabato y por tanto se debe manipular con precauciĂn. Para mĂs informaciĂn, visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

No intente sustituir la batería de su Producto. EstĂ integrado el dispositivo y no puede sustituirse. La batería debe ser revisada y reparada solamente en centros de servicios autorizados por Fossil Group.

Las baterías (y todos los dispositivos electrĂnicos) se deben reciclar y a desecharlos nunca deben mezclarse con los residuos domĂsticos.

No tire el Producto al fuego. La batería podrĂ explotar.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO UTILICE DISPOSITIVOS CON PANTALLA/PANTALLA TĂCIL

AVISO EN CUANTO A LA PANTALLA: La pantalla de su dispositivo estĂ fabricada con cristal de acrílico y podrĂ romperse si se cae o recibe un golpe considerable. No utilice el Producto si la pantalla estĂ rota o resquebrajada ya que podrĂ causar lesiones.

EXENCION DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA: USO ADECUADO DE UN DISPOSITIVO CON PANTALLA TĂCIL. Si el dispositivo dispone de pantalla tĂcil, tenga en cuenta que esta responde mejor a un ligero toque con la punta del dedo o con un stylus no metĂlico. Ejercer demasiada presiĂn o utilizar un objeto metĂlico sobre la pantalla tĂcil podrĂ daĂar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para mĂs informaciĂn, consulte la "Garantía limitada estĂndar".

IMPORTANTE! No deje que la pantalla tĂcil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar un funcionamiento incorrecto de su pantalla tĂcil.

Puede encontrar informaciĂn sobre concreto del producto, informaciĂn normativa y marcas de cumplimiento acerca de este producto. **Vis Ajustes > Sistema > Acerca de > InformaciĂn Normativa.**

Para mĂs informaciĂn, consulte los Avisos Normativos o visite <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZDROWIA

Korzystasz z produktu całkowicie na własną odpowiedzialność. Nie dajemy żadnych poświadczeń, gwarancji ani obojętnie odnośnie dokładności, niezawodności czy efektywności jakiegokolwiek funkcji produktu lub usługi, w tym: bez ograniczeń, liczb zrychłych kroków, spalanych kalorii, jakości lub długości snu, tętna i innych informacji. Celem produktu jest zapewnienie rozsądnych danych szacunkowych takich jak: tempo, kroki, spalane kalorie, pokonywany dystans, tętno i sen. Produkt polega na dokładności wprowadzonych informacji, wykorzystując algorytmy, które niekoniecznie są idealne i podlega innym czynnikom, które są poza naszą kontrolą. Na przykład, podczas gdy monitor tętna zazwyczaj podaje dokładne szacunkowe tętno użytkownika, technologia ma istotne ograniczenia, które mogą spowodować, że odczyty tętna w pewnych okolicznościach mogą być nieprecyzyjne. Może to być spowodowane nieodpowiednim założeniem urządzenia, fizjologią użytkownika oraz typem i intensywnością aktywności. Nie gwarantujemy, że informacje podane przez urządzenie są dokładne w 100%. Produkt będzie niedokładnie śledził spalającą kalorie i każdy zrychłą

krok i będzie niedokładnie podawał tempo, pokonaną odległość, tętno i sen.

Produkt, w tym jakiegokolwiek dołączone oprogramowanie, nie jest urządzeniem medycznym i jest przeznaczony wyłącznie do celów zdrowotnych i aktywności fizycznej. Nie został zaprojektowany lub przeznaczony do stosowania w diagnostyce chorób lub do ich leczenia, diagnozowania objawów bądź też do zapobiegania chorobom. Należy zawsze zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika medycznego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dotyczących ćwiczeń, snu lub sposobu odżywiania, gdyż w przeciwnym razie może dojść do poważnych szkód zdrowotnych lub nawet śmierci.

Długotrwałe tarcie oraz ucisk może wywołać podrażnienia skóry. Prawdopodobieństwo podrażnienia może być większe, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na określone materiały. Używaj się, że Twoje urządzenie pozostaje czyste, ponieważ połączenie potu i brudu również może powodować podrażnienia skóry.

OSOBY POSIADAJĄCE URZĄDZENIA IMPLANTOWANE MEDYCZNIE POWINNY:

- (Jeśli dotyczy) Przed rozpoczęciem korzystania z monitora należy skonsultować się z lekarzem.
- Trzymać Produktu w odległości większej niż 20 centymetrów od urządzenia medycznego, gdy produkt jest włączony.
- Nie nosić Produktu w kieszeni na piersi.
- Nosić Produktu na nadgarstku naprzeciwko miejsca, w którym zostało wszczepione urządzenie medyczne, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń generowanych przez urządzenie wykorzystujące transmisję radiową.
- Nie zakładać Produktu, jeśli będą zauważalne jakiegokolwiek zakłócenia.

DLA URZĄDZEŃ Z BATERIAMI WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA

Stacja dokująca jest przeznaczona do stosowania na stole. Aby postąpić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej i uniknąć interferencji z wrażliwymi urządzeniami medycznymi, zachowaj odległość co najmniej 15 centymetrów (około 6 cali) od stacji dokującej.

OSTRZEŻENIE! Używanie baterii lub ładowarki niezatwierdzonej przez firmę może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku lub innych zagrożeń.

OSTRZEŻENIE! Niektóre artykuły wyposażone są w baterie litowe, które mogą zawierać nadchloran i w związku z tym wymagać specjalnego traktowania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ne próbuj wymieniać baterii w Produkcie. Jest wbudowana i nie można jej wymienić. Bateria powinna być serwisowana wyłącznie przez autoryzowaną centralę serwisową Fossil Group.

Baterie (i cały sprzęt elektroniczny) muszą być poddane recyklingowi i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nie wrzuć Produktu do ognia. Bateria może wybuchnąć.

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE W TRAKCIE UŻYWANIA URZĄDZEŃ Z WYSWIETLACZEM/ERKANEM DOTYKOWYM.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WYSWIETLACZA. Wyświetlacz Twojego urządzenia wykonany jest ze szkła lub akrylu i może pęknąć, jeśli urządzenie zostanie uderzone lub uderzy w coś ze znaczącą siłą. Nie używaj urządzenia, jeśli ekrĂn jest pęknięty lub uszkodzony, gdyż mogłoby to spowodować obrażenia ciała.

WŁĄCZENIE GWARANCJI: WŁAŚCIWE UŻYWANIE URZĄDZENIA Z ERKANEM DOTYKOWYM. Jeśli twoje urządzenie posiada ekran dotykowy, pamiętaj, że najlepiej reaguje on na lekkie dotknięcie opuszkami palca lub niemetalicznym ryśkiem. Zastosowanie nadmiernej siły lub metalowego przedmiotu w trakcie naciskania na ekran dotykowy może uszkodzić szklaną powierzchnię i spowodować utratę gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę zapoznać się ze „standardową ograniczoną gwarancją”.

WAZNE! Ekran dotykowy nie może mieć kontaktu z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wylądowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie ekranu dotykowego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapoznaj się z Deklaracjami Zgodności lub wejdź na stronę <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

ÖNEMLİ SAĞLIK TEDBİRLERİ

Ürünü kullanırken riskli taramanız size aittir. Atığınız adımlar, yakılan kalori, uykü kalitesi veya süresi, kalp atış hızı veya diğer bilgiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ürünü işletimin veya hizmetin doğruluğu, güvenilirliği veya etkinliği hakkında herhangi bir temsilde, garantiye veya taahhütte bulunmamaktayız. Ürün; tempo, adım, kalori, uykü bilgileri, kalp atış hızı veya uykü gibi metrikler için tahmini bilgi sağlamak amaçlıdır. Ancak ürün, gizli ölçümleriniz gibi diğer doğruluğuna dayanan, mutlak mükemmeliyetli sahil olmayan algoritmalar kullanılır ve kontrollünüzü şansıdaki diğer faktörlere tabidir. Örneğin, kalp atış hız ölçümü monitörü genellikle kullanıcıları kalp atış hızını yaklaşıksı tahminleri sağlayabilen de cihazın vücudunu tıyınabilir. Kullanıcının fizyolojisi, analitik türü ve yoğunluğu gibi belirli durumlar ayrıca bazı kalp atış hız okumalarının hatalı olmasına yol açabilir. Teknolojiye ilgi doğu klastımları söz konusu. Ürünün sağladığı bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti etmemekteyiz. Ürün, yakılan her bir kaloriyi veya atılan adım kursoruz olarak takip etmemektedir, tempoyu, katedilen mesafeyi, kalp hızını veya uyküyü kursoruz olarak rapor etmemektedir.

Ürün, işletimin herhangi bir yazılım da dahil, bir medikal cihaz değildir ve yalnızca fitness amacıyla kullanılır. Bir hastalığın ya da diğer koşulların teşhis edilmesi, ya da bir hastalığın tedavisi edilmesi, teşhis edilmesi ya da hastalıkların korunması için tıbbi amaçlarla kullanılmamalıdır. Egzersizinizi, uykünüzü ya da beslenmenizi bir deęişlikli yapmadan önce yetirlięde sahil bir saęlık uzmanının tavsiyesini alın, uykü yapmadı edmi saęlık sorunlarına ya da ölüme neden olabilir.

Uzun süreli sünlümme ve basıncı cildi tahriş edebilir. Eęer alerjiniz ya da başka hassasiyetleriniz varsa gıyillerbir tüm cihazların cildinize tahriş neden olan itimlali daha fazla. Ter ve kılın birleşmesi de ciltte tahriş neden olabilir. Cildinizi liften cihazınuz temiz tutmaya özen gösterin.

İMLANT YAPILMIŞ MEDİKAL CİHAZ KULLANAN KİŞİLERİN SAĞADAKİLERE UYUMLALDIR.

- (Eęer mevcuttur) Bir cihazın arazi kullanmadan önce doktorunuzla danışın.
- Ürünü akı komunydemiz ürünü medikal cihazlardan en az 20 santimetre uzaktaki tutmalısınız.
- Ürünü asla göęüs ceplerinde taşımamalısınız.
- Ürünü RF müdahalesini en aza indirmek için implant yapılmış cihazın karęı tarafında olan bileęi kullanın.
- Herhangi bir müdahale ödeęünü fark ederseniz ürünü takmayın.

YALNIZCA SAĞ EDİLEBİLİR BATERİYASI OLAN CİHAZLAR İÇİN

Şarj doku masa üzeri kullanılmı için tasarlanmıştır. RF taslak kılavuzlarına uygun olması ve implant yapılmış medikal cihazlarla etkileşimi engellemek amacıyla, şarj dokundan en az 15 santimetre



ผลิตภัณฑ์ รวมถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จำหน่ายไปไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น มิได้ได้รับการออกแบบหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์อื่น ๆ หรือในการรักษา การตรวจรักษา การวินิจฉัยอาการโรคใด ๆ มีจุดประสงค์และอาจวางขายในเชิงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การใช้อุปกรณ์กำลังมีการประเมินผล หรืออาจมีการทบทวนใหม่เนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย

การปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้งานให้รัดกุมยิ่งขึ้น อาจมีความจำเป็นไปให้ต้องประเมินกับคุณความหมายของเอกสารอุปกรณ์ในโรคใด ๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์นี้อาจมีจุดประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์

- (หากมีค่าใช้จ่าย) โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนการใช้เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ
- เก็บผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิอากาศที่ 20 เซลเซียสจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณที่มีผลิตภัณฑ์จากพลาสติกแข็งอายุ 2 ปี
- อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ใช้เครื่องมือมาตรฐานกับสายไฟที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรวมกับ RF ที่เกิดขึ้น
- อย่าสวมใส่ผลิตภัณฑ์หากคุณรู้สึกว่าการรวมกับ RF เกิดขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงชื่อแบรนด์ต่อไปนี้:

• แอปพลิเคชันได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับ iPhone เพื่อให้อัตโนมัติกับตำแหน่งและข้อมูลการสัมผัสของ RF และเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำงานในร่างกาย โปรดพิจารณาหาหน่วยงานของ 15 เซลเซียส

(ประมาณ 5 °C) จากแบรนด์:

คำเตือน! การใช้งานผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

คำเตือน! สินค้าบางชิ้นซึ่งมีกล่องปิดด้วยแคสซีโอมีอาจประกอบด้วยวัสดุแบบปลอดเชื้อ - อาจต้องได้รับการจัดการพิเศษ www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อายุขัยตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์คุณ มีอยู่ภายในและไม่สามารถเปลี่ยนได้ แคสซีโอมีต้องได้รับการกำจัดอย่างเหมาะสมที่ได้รับการอนุมัติจาก Fossil Group เท่านั้น

แคสซีโอมี (และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด) จำเป็นต้องได้รับการรีไซเคิลหรือทิ้งโดยแยกจากขยะครัวเรือน

อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณลงในถังขยะธรรมดา

โปรดทราบข้อมูลข้อดีที่ไม่ได้ระบุข้างต้นของอุปกรณ์ที่มีแนวโน้มดีของผลิตภัณฑ์นี้

คำเตือน! ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีคุณสมบัติที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนหรือการบาดเจ็บจากการใช้

หรือหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจใช้งานหนักจนเกินไปหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ

การใช้อุปกรณ์ที่มีจุดประสงค์ทางการแพทย์อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ

คำเตือน! โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าคุณอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ



ruководящих указаний относительно радиочастотных воздействий и предотвращения вмешательства в работу имплантированных медицинских устройств находится не ближе 15 сантиметров (примерно 6 дюймов) от зарядного устройства.

ОСТОРОЖНО! Использование необработанной батареи или зарядного устройства может вызвать опасность пожара, взрыва, утечки или другие опасности.

ОСТОРОЖНО! Некоторые Изделия оснащены литиевыми батареями, которые могут содержать перхлораты. К таким изделиям могут применяться особые правила обращения. См. www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate для получения дополнительной информации.

Не пытайтесь заменять Батарею Изделия. Она является встроенной, и ее невозможно заменить. Обслуживание Батареи должно выполнять только уполномоченные сервисные центры Fossil Group. После истечения срока службы Батареи (и всего электронного оборудования) ее следует отправить на переработку или утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Не утилизируйте свое Изделие в огне. Батарея может взорваться.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ С ДИСПЛЕЕМ/СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИСПЛЕЯ: Дисплей вашего устройства изготовлен из стекла или акрила и может разбиться при падении устройства или сильном ударе по нему. Не используйте устройство, если его экран разбит или треснул, поскольку так вы можете причинить себе травму.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА УСТРОЙСТВА. Если ваше устройство оснащено сенсорным дисплеем, обратите внимание, что оно лучше всего реагирует на легкое прикосновение подушечкой пальца или нематериальным стилусом.

Использование чрезмерной силы или металлического объекта при нажатии на сенсорный экран может привести к повреждению поверхности закаленного стекла и аннулированию гарантии. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со «Стандартной ограниченной гарантией».

ВАЖНО! Не позволяйте сенсорному экрану контактировать с другими электрическими устройствами. Электростатические разряды могут привести к сбоям в работе сенсорного экрана.

На этикетке нанесены информация об нормативном регулировании, сертификации, а также знаки соответствия стандартам. Перейдите в «Настройки» > О - Информация о нормативном регулировании». Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Уведомлениями о нормативном регулировании или посетите сайт <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

МАСУРИ ИМПОРТАНЕ ДЕ ПРЕАУТИЕ ПРИВИНД САНАТАТЕА

Utilizarea de către dvs. a produsului se face exclusiv pe propria risc. Nu oferim nicio declarație, garanție sau promisiune cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau eficiența funcțiilor sau serviciilor produsului, inclusiv (fără limitare) numărul de pași făcuți, calorile arse, calitatea sau durata somnului, pulsul (dacă este cazul), precum și alte informații. Produsul este destinat să ofere o aproximare rezonabilă a informațiilor privind ritmul de mers, pașii, calorile arse, distanța parcursă, pulsul (dacă este cazul) și somnul. Cu toate acestea, produsul se bazează pe acuratețea informațiilor pe care le introduceți, utilizează algoritmi care nu sunt neapărat perfecți și depinde și de alți factori în afara controlului nostru. De exemplu, desigur programul de monitorizare a pulsului poate oferi în mod specific o estimare exactă a ritmului cardiac al utilizatorului, există limitări inerente privind tehnologia care pot determina ca unele citiri ale frecvenței cardiace să fie inexacte în anumite circumstanțe, cum ar fi ajustarea dispozitivului, fiziologia utilizatorului, tipul și intensitatea activității desfășurate. Nu garantăm că informațiile furnizate de produs sunt 100% corecte. Produsul nu va monitoriza cu precizie fiecare calorie arse sau fiecare pas făcut și nu va raporta cu excitație informații privind ritmul de mers, distanța parcursă, pulsul sau somnul.

Produsul, inclusiv orice program inclus în acesta, nu este un dispozitiv medical și este destinat exclusiv activităților de fitness. Utilizări nu este conceput sau destinat utilizării în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau în vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolilor. Solicitați întotdeauna sfatul unui specialist în domeniul medical înainte de a face orice modificare în ceea ce privește exercițiile fizice, somnul sau alimentația, deoarece acest lucru poate provoca vătămări grave sau chiar deces.

Freacărea prelungită și presiunea pot provoca iritații ale pielii. În cazul în care aveți alergii sau alte sensibilități, purtarea dispozitivului poate provoca apariția iritațiilor. Rău văgăm să acordeți o atenție deosebită păstrării dispozitivului curat, deoarece combinația de transpirație și murdărie poate provoca, a asemenea, iritarea pielii.

PERSOANELE CU DISPOZITIVE MEDICALE IMPLANTATE TREBUIE:

(Dacă este cazul) Să consulte medicul înainte de a utiliza un program de monitorizare a ritmului cardiac.

• Atunci când produsul este pornit, să îl mențină la o distanță mai mare de 20 de centimetri față de dispozitivul medical.

• Să nu poarte produsul dacă observă orice fel de interferențe.

• Să nu țină niciodată produsul în buzunarul de la piept.

• Să utilizeze încheietura mâinii opuse dispozitivului medical implantat pentru a minimiza potențialul interferenței frecvențelor radio.

PENTRU PRODUSELE CU BATERII REÎNCARCABILE

Supportul pentru încărcare este destinat utilizării pe o suprafață plană. Evitați expunerea încărcătorului direct în lumina soarelui. Pentru a respecta instrucțiunile privind expunerea la frecvențele radio și pentru a evita interferența cu dispozitivele medicale implantate, păstrați o distanță de cel puțin 15 centimetri de la suportul pentru încărcare.

AVERTISMENTE: Utilizarea bateriilor sau încărcătorelor neautorizate atrage riscuri de incendiu, explozie, scurgeri sau alte pericole.

AVERTISMENTE: Anumite articole sunt echipate cu baterii cu litiu care pot conține perclorat - în acest caz pot fi valabile instrucțiunile speciale de manipulare. Pentru mai multe informații, vizitați www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nu încercați să înlocuiți bateria produsului. Aceasta este încorporată și nu poate fi schimbată. Bateria trebuie trimisă în service doar în centrele autorizate de către Fossil Group.



ИЗДЕЛИЯ С АККУМУЛЯТОРАМИ

Зарядное устройство предназначено для настольного использования. Для выполнения

Bateriile (și toate echipamentele electronice) trebuie reciclate sau aruncate separat de deșeurile menajere. Nu aruncați produsul în foc. Bateriile poate exploda.

REȚINEȚI URMĂTOARELE ASPECTE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII DISPOZITIVELOR CU AFIȘAJ/ECRAN TACTIL
AVERTISMENT PRIVIND AFIȘAJUL: Ecranul dispozitivului dvs. este fabricat din sticlă sau acril și se poate sparge dacă dispozitivul cade pe jos sau este lovit puternic. Nu utilizați produsul dacă ecranul este spart sau crăpat deoarece acest lucru poate cauza vătămări.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CEEA CE PRIVESTE GARANȚIA-UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A UNUI DISPOZITIVU ECRAN TACTIL: Dacă dispozitivul dvs. are un ecran tactil, vă rugăm să rețineți că acesta răspunde cel mai bine la o atingere ușoară cu vârful degetului sau cu un pix stilus nemetalic. Utilizarea forței excesive sau a unui obiect metalic atunci când apăsați pe ecranul tactil poate deteriora suprafața de sticlă călăită și anulează garanția. Pentru mai multe informații, consultați „Garanția limitată standard”.
IMPORTANTINU PERMITEȚI CA ECRANUL TACTIL SĂ INTRE ÎN CONTACT CU ALTE DISPOZITIVE ELECTRONICE. Descărcările electrostatice pot provoca deteriorarea ecranului tactil.
Informațiile de reglementare specifice produsului, certificarea și mărcile de conformitate pot fi găsite pe acest produs. Mergeți la Setări-Sistem-Despre-Informații de reglementare.
Pentru informații suplimentare, consultați Notificările privind reglementarea sau vizitați [https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/](https://www.fossilgroup.com/compliance)

DĂLEZĂȚĂ BEZPECĂSĂTII OPĂTRĂNII PRO ZDRAVIE

Vărobec pouzivăte vřihradn na vlastn nebezpe.Nevydvme adn prohlšení, zruky ani přibřihy třkajci se přesnosti, spolehlivosti nebo užitnosti funkci nebo slůžeb vrobu, mimo jin vetn potu ušřh krouk, splench kalori, kvality nebo dlk spnku, tepov frekvence (je-li to mist) a dalšich informac. Ušřtem vrobu je poskytnta veobecn přehledn informace, jako jsou tempo, poet krouk, splen kalorie, vzdlenost, tepov frekvence (je-li to na mist) a spnek.Vrobec nicmne vychz z informac, kter zadte, vřivz algoritmy, kter nejsou nezbytn dokonale a podlhaji jinm faktorm, kter jsou mimo ns kontrolu. Přestože napřiklad monitor tepov frekvence obvykle poskytuje přesn odhad tepov frekvence uřivatele, m technologie neodmysliteln omezen, kter mohou zpsobit, že nkter tet tepov frekvence jsou z uřivch okolnosti nepřesn. Zdte si, jak zařizen sed na ruce, na fyzikol uřivatele i typu a intenzit aktivity. Nezaruzujeme, že informace poskytnov vroblem jsou 100% přesn.Vrobec přesn nezaznamen každou sptenou kalorii ani každ kroc, a nebude vm přesn hlsit tempo, vzdlenost, tepovou frekvenci ani spnek.

- Vrobec, vetn jakkoliv dodvanho softwaru, nen zdravotnickm prostředkem a je uřben pouze pro ušbery sledovn tlesn kondice. Nen uřben ani zamřřen pro stanoven diagnzy onemocnn nebo jinch stav, ani pro lebu, zmřnřvn, ošřten ani přechzn onemocnn.Před provedenm jakkoliv zmřnř cvičen, spnku nebo vřivz vřivy pořadte o radu kvalifikovnho lkra, nebo takov zmřny mohou vst k vznm ušm na zdraví nebo k ušm.

Dlouhotrvjc třeni a tlak mohou držit pokořku.Pokud mte alergii nebo jste jinak přecitlivl, s všř pravdpodobnost se u vs při nošn nositeln elektroniky (tzv. wearables) objev podřzdn.Dbejte na to, aby vs zařizen čist, nebo kombinace potu a nečistt mže tak zpsobit podřzdn pokořky.

OSOBY S IMPLANTOVANM ZDRAVOTNICKM PROSTŘEDKEM BY MLY DODRŽOVT NSLEDUJC POKYNY:

- (Je-li to na mist) Před pouzitm monitoru srdenho tepu se poradte s lkrem.
- Zapnut vrobec neste ve vzdlenosti alespo 20 centimetr od svho zdravotnickho prostředku.
- Pokud si vsmnete jakkoliv rušn, vrobec nepouzivte.
- Nikdy nenechvte vrobec v npřsn kapse.
- K nošn vrobu pouzivte zpst na druh stran tla nz mte implantovn zdravotnick prostředek, abyste minimalizoval pravdpodobnost radiofrekvencnho rušn.

PRO VROBKY S DOBLECMI BATERIEMI

Nabjeici stanice je uřben pro stoln pouzit.Nepokldajte nabjeicu na misto, kam dopad přím slunen svtlo.Abyste dodřzli pokyny pro expozici rdiolovm frekvencm a zabřnli interferenci s implantovnm zdravotnickm prostředky, udržte od nabjeici stanice vzdlenost alespo 15 centimetr.

VAROVNPoužit neschvlen baterie nebo nabjeic mže představovat riziko vzniku pořaru, vbuchu, ušniku nebo jinho nebezpe.

VAROVNNkter předmty jsou vybaveny lithiovmi bateriemi, kter mohou obsahovat chloristan – mohou vyžadovat zvlstn zachzení.Vice informac naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nepokoušejte se vymnořovat baterii vrobu.Je vestavn a nelze ji mnit.Baterie mohou opravovat pouze servisn střediska autorizovan společnosti Fossil Group.
Baterie (a vešker elektronika zařizen) je třeba recyklovat nebo likvidovat oddlen od bžnho domcho odpadu.
Nevyhzujte vrobec do ohn.Baterie by mohla explodovat.

PŘI POUZIVN ZŘIZEN S DISPLEJEM / DOTYKOVOU OBRAZOVKOU VEZMTE V UVAHU

NSLEDUJC INFORMACE

OPOZORNN K DISPLEJI Displej na vašem zařizen je vyroben z skla nebo akrylu, a pokud vs zařizen upadne nebo utrp siln nraz, mže se displej rozbít. Nepouzivte vrobec, jestliže je obrazovka rozbita nebo praskl. Mohlo by dojít k porann.

ODMTNUT ZRUKY:SPRVNE POUZIT ZŘIZEN S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU.Pokud m vaše zařizen dotykovou obrazovku, upozorujeme, že dotykov obrazovka nejlpe reaguje na lehk dotyk břřsk vašeho prstu nebo nekovovho stylusu.Použit přils velk sily nebo kovovho předmtu při ovldn dotykov

obrazovky mže poškodit povrch z tvrzenho skla a zneplatn zruku.Dalš informace naleznete v části

„Standardn omezen zruka”.

DLEZITNedovolete, aby se dotykov obrazovka dostala do kontaktu jinmi elektrickmi zařizenmi.

Elektrostatick vboje mohou zpsobit poruchu dotykov obrazovky.

Na tomto vrobu mžete najít informace o předpisech třkajcch se vrobu, certifikac a znaky dokladjci shodu s předpisy.Přejděte do Nastaven-Systm-O zařizen-Informac o převnch předpisech.

Dalš informace naleznete v regulcnch oznmench nebo na adrese <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

KUHYEM CO SŤC KUHO QUAN TRNG

Bn thn ban chiu ru ro khi sử dụng Sn phẩm. Chúng ti không đi điện, bo đm ho ha hen ve sử chn xc, lm chy hoặc hiu quả của bất kỳ chc nng no của Sn phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn che số bước ban đi, lượng calo đt chy, cht lượng hoặc thời gian gic ngủ, nhịp tim (nếu c), và các thng tin khc. Sn phẩm đưc mong đợi sẽ cung cấp một lượng thng tin xp xỉ hợp lý ve tốc đ đi, bước đi, lượng calo đt chy, khoảng cch đi, nhịp tim (nếu c) và gic ngủ. Tuy nhn, Sn phẩm đưc trn sử chn xc của thng tin đu vo, sử dụng các thuật toán m không nhất thiết pho ho no và chiu sự chỉ phi của các yếu tố khc vot r khỏi sự kiểm soát của chúng ti. Ví dụ, dù ve theo đi nhịp tim thường cho biết nhịp tim đưc ước lượng chn xc của người đùng, vn c những hạn che rõ ràng của công nghệ c thể khiến ve đoc nhịp tim không chn xc trong những điều kiện nhất đnh, như sự thay ho của thiết bị, chc nng sinh lý của người đùng, loại và cường đo hoạt đng. Chúng ti không đm bo sng thng tin đưc Sn phẩm cung cấp là chn xc 100%. Sn phẩm sẽ không theo đi một cách chn xc lượng calo đưc đt chy hoặc mỗi bước đi, và sẽ không bo co chn xc tốc đ đi, khoảng cch đi, nhịp tim hay gic ngủ.

Sn phẩm, bao gồm bất kỳ phn mm trong sn phẩm no, không phi là một thiết bị y t và chỉ đưc đùng với mục đích thể dục. Sn phẩm không đưc thiết kế hay mong muốn đưc sử dụng vo ve chn đn đnh hoặc các điều kiện khc, hoặc vo ve chra, lm thng gim, điều trị hoặc phng bnh. Hy lu tn kiểm li khi quyết tm nhn chy mn y t để khn trng khi đưa ra bất kỳ thay đi no với thng tin đt đc, gic ngủ hay định đưng của ban, bởi ve thay đi này c thể gây r thiệt hại nghiêm trọng hoặc tử vng.

Ve co xt và p st vo đng ho ko đi c thể gây kích thch da. Ban c nhiều khn no bị kích thch da khi sử dụng bất kỳ thiết bị đeo tay no nếu ban bị đi ng hoặc co các nhy cm khc. Hy đc biệt chy y ti ve cho th thiết bị sạch sẽ bởi sự kết hợp giữa mo hi và bụi bn cũng c thể gây r kích thch da.

NHỮNG NGUỒI CO THIẾT BỊ Y T ĐƯC CY DƯỚI DA NN:

- (Nếu c) Tham khy y kiến bác sĩ trước khi sử dụng máy theo đi nhịp tim.
- Gic Sn phẩm cách xa thiết bị y t hơn 20cm khi Sn phẩm đưc bc lên.
- Không đeo Sn phẩm nếu ban nhận thấy bất kỳ sự gy nhiều no.
- Không bao giờ để Sn phẩm trong túi áo ngực.
- Hy sử dụng co tay đi điện vi thiết bị y t đưc cy để giảm thiểu nguy cơ gy nhiều tn số co.

VI NHỮNG SN PHẨM DÙNG PIN CO TH SẮC LI

Đng sc đưc thiết kế cho ve sử dụng theo kiểu nng nm. Trnh đt sc trực tiếp đưi ánh sng mặt trời. Để tn thủ các hng đn khi tiếp xúc với tn số cao và trng gy nhiều cho các thiết bị y t, hy duy trì khoảng cch ít nhất 15cm cách xa để sc.

CẢNH BO! Ve sử dụng pin hoặc sc không đưc chứng nhận c thể gây r nguy cơ ho ha, chy no, rò rỉ hoặc các mối nguy hại khc.

CẢNH BO! Những bộ phn đưc lắp cn pin Lithi c thể chứa cht lim perchlorat - c thể phr xy đc biệt. Hy truy cập www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate để biết thêm thng tin.

Không co thay pin của Sn phẩm. Pin đưc gắn liền và không thể thay đưc. Chỉ những trng tm dịch vụ đưc Tp đn Fossil úy quyền chn xc thời mn nn xử lý pin.

Pin (v tt cả thiết bị điện tử) phi đưc ti cht hoặc xử lý tách rời rc thải sinh hoạt.

Không vt pin của Sn phẩm vo lra. Pin c thể nổ.

HY LU Y NHỮNG ĐIỀU DƯỚI ĐY KHI SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ MÀN HÌNH THM/GM NG

CẢNH BO VE MẮT ĐNG HỒ Mặt trn thiết bị của ban đưc lm bằng thy tinh hoặc acrylic và c thể vỡ thiết bị của ban r hoặc nếu n bị tác đng lớn. Không sử dụng nếu màn hình bị vo hoặc nứt bởi một yếu đi c thể gây thng thương tch cho ban.

TƯ CHI BO HÀNH: SỬ DỤNG THIẾT BỊ CO MÀN HÌNH CẢM NG ĐNG CÁCH. Nếu thiết bị của ban co mặt là màn hình cảm ng, hy lu ý rằng màn hình cảm ng ti đp tt nhất khi chạm nhẹ ngón tay hoặc bn cảm ng ph kim. n vo màn hình cảm ng với một lực quá lớn hoặc sử dụng vật kim loại c thể lm hỏng bề mặt kính cường lực và vo hiệu ho bo hành. Để biết thêm thng tin, hy xem phn “Bo hành Co Gii hạn Tiêu chuẩn.”

QUAN TRNG! Không để màn hình cảm ng tiếp xúc vi các thiết bị điện khc. Phng tm điện c thể khiến màn hình cảm ng trục trc.

Các đầu hiệu ve thng tin, chứng nhận và tun thủ pháp quy cụ thể của sn phẩm c thể đưc tìm thấy trn sn phẩm này. Đi tới phn Cài đt > Hệ thng> Thng tin> Thng tin Pháp quy.

Để biết thêm thng tin, hy xem phn Thng báo Pháp quy hoặc truy cập <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>



REGULATORY AND SAFETY NOTICES

FCC STATEMENT (USA)

FCC ID: UK7-DW6A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the FCC and Industry Canada radio frequency exposure limits. FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by manufacturer, may void the user's authority to use the device. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) (Canada)

IC:6708A-DW6A

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the interference-causing equipment standard entitled: "Digital Apparatus," ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, comme établi dans la norme des appareils créant des interférences intitulée « Appareils numériques », ICES-003 du Département canadien des Communications.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce produit répond aux exigences des normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne devra pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

CE DECLARATION OF CONFORMITY (EUROPE)

[ENGLISH] Hereby, Fossil Group, Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[DANSK] Hermed erklærer Fossil Group Inc. sverensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser fra Direktiv 2014/53/EU. Hele teksten af konformitetserklæringen fra EU kan findes på følgende internetadresse: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[NEDERLANDS] Fossil Group Inc. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van EU-Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[SVENSKA] Härmed intygar Fossil Group, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten gällande EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande adress: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[NOSK] Fossil, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grundlæggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige teksten i EU-erklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[DEUTSCH] Fossil Group, Inc. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU Richtlinie 2014/53/EU einhält. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[FRANCAIS] Fossil Group Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE à l'adresse suivante : <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[ITALIANO] Con la presente, Fossil Group, Inc., dichiara che questo prodotto rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[PORTUGUÊS] Fossil Group, Inc., declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade CE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.fossilgroup.com/responsibility/regulatory-compliance/>

[ESPAÑOL] Por medio de la presente Fossil Group, Inc., declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. El texto íntegro de la declaración CE de conformidad está disponible en la siguiente dirección web: <https://www.fossilgroup.com/responsibility/regulatory-compliance/>

[POLSKI] Niniejszym, Fossil Group, Inc. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[TÜRKE] İş bu vesileyle, Fossil Group, Inc., bu ürünün temel gerekliliklere ve 2014/53/UE sayılı direktifin diğer ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluluk deklarasyonu tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[RUSSIAN] ЕВРОПА (ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ СЕ) Настоящая группа компаний Fossil Group, Inc. заявляет, что данное издание соответствует обязательным требованиям и прочим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС представлен в интернете по следующему адресу: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[ROMANIAN] EUROPA (DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE) Prin prezenta, Fossil Group Inc. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[CZECH] EVROPA (PROHLÁŠENÍ CE O SHODĚ) Společnost Fossil Group, Inc. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

[VIETNAMESE]

TUYÊN BỐ PHÙ HỢP TIỂU CHUẨN CE (CHÂU ÂU)

CHÂU ÂU (TUYÊN BỐ PHÙ HỢP TIỂU CHUẨN CE)

Do vậy, Tập đoàn Fossil tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu cốt yếu và các điều khoản liên quan khác của Chi thị 2014/53/EU. Toàn văn của Chứng nhận Hợp chuẩn CE có tại địa chỉ sau: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

[ENGLISH] Disposal and Recycling Information

The symbol indicates that this Product shall not be mixed with unsorted municipal waste when disposed of. There is a separate collection system for waste electrical and electronic equipment. Usually old electrical and electronic equipment can be returned free of charge. For further information please contact the competent municipal authorities or the shop where you purchased the Product. Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage to the environment and human health and to preserve natural resources.

- Do not dispose of the Product with household waste.
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.
- Disposal of the packaging and your Product should be done in accordance with local regulations.

[DANSK] Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Dette symbol indikerer, at produktet ikke må blandes med usorteret kommunalt affald, når det bortskaffes. Der findes et separat indsamlingssystem for elektrisk affald og elektronisk udstyr. Sædvanligvis kan gammelt elektrisk og elektronisk udstyr returneres gratis. For yderligere oplysninger kontakt relevante kommunale myndigheder eller butikken, hvor du købte produktet. Korrekt bortskaffning sikrer, at elektrisk affald og elektronisk udstyr genbruges på passende vis. Dette hjælper med



- at modvirke potentielle skader på miljøet og menneskers sundhed og bevare naturressourcer.
- Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
- Batterier må ikke bortskaffes via kommunal affaldsindsamling, og kræver separat indsamling.
- Bortskafning af indpakning og dit produkt bør ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

[NEDERLANDS] Informatie over weggoep en recylen

Het symbool geeft aan dat dit product niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Er is een apart inzamelsysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Meestal kan oude elektrische en elektronische apparatuur kosteloos worden geretourneerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde gemeentelijke instanties of met de winkel waar u het product hebt gekocht. De juiste verwijdering zorgt ervoor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecyield en op passende wijze wordt hergebruikt. Het systeem voor aparte inzameling voorkomt mogelijke schade aan het milieu en de volkgezondheid en beschermt de natuurlijke hulpbronnen.

- Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval.
- Batterijen vereisen geschieden inzameling en mogen niet worden weggegooid in de gemeentelijke afvalstroomb.
- Verwerking van de verpakking en van het product moet worden gedaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

[SVENSKA] Information om avfallsantering och återvinning

Symbolen anger att produkten inte skall blandas med osorterat kommunalt avfall vid avyttrande. Det finns en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. Oftast kan gamla elektriska och elektroniska produkter lämnas in kostnadsfritt. Kontakta behöriga kommunala myndigheterna eller den butik där du köpte produkten för ytterligare information. Korrekt avyttring säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning återvinns och återanvänds på lämpligt sätt. Det hjälper till med att undvika potentiell skada för miljön och människors hälsa och för att bevara naturresurser.

- Avyttra inte produkten med hushållsavfallet.
- Batterier får inte avfallshanteras i kommunala avfallet och kräver separat insamling.
- Avyttring av förpackningen och produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter.

[NOSK] Informasjon om avhending og resirkulering

Symbolot indikerer at dette produktet ikke skal blandes med restavfall ved avhending. Det er et eget innsamlingsystem for elektrisk avfall og elektronisk utstyr. Vanligvis kan gammelt elektrisk og elektronisk utstyr returneres gratis. For ytterligere informasjon kontakt kommunale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet. Korrekt avhending sikrer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr blir resirkulert og gjenbrukt på riktig måte. Det bidrar til å unngå mulig skade for miljøet og menneskers helse, samt bevare naturressurser.

- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet og krever separat innsamling.
- Avfallshåndtering av emballasjen og produkt bør gjøres i henhold til lokale bestemmelser.

[DEUTSCH] Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht gemeinsam mit unsortierten Kommunalabfällen entsorgt werden darf. Es gibt ein separates Sammelsystem für elektrische und elektronische Abfälle. Alle elektrische und elektronische Geräte können üblicherweise kostenfrei zurückgegeben werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die zuständige Kommunalverwaltung oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass elektrische und elektronische Geräte angemessen recycelt und wiederverwertet werden. Dies hilft dabei, potenzielle Schädigungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu vermeiden und natürliche Ressourcen zu erhalten.

- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.
- Batterien dürfen nicht in den kommunalen Entsorgungskreislauf gelangen und erfordern separate Sammlung.
- Die Entsorgung der Verpackung und Ihres Produktes sollte gemäß örtlicher Richtlinien erfolgen.

[FRANÇAIS] Informations concernant l'élimination et le recyclage des déchets

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets ménagers lors de son élimination. Il existe un système de récupération particulier pour l'élimination des appareils électriques et électroniques. Habituellement, les anciens appareils électriques et électroniques peuvent être restitués gratuitement. Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter les instances municipales compétentes ou le magasin où vous avez acheté le produit. Une procédure d'élimination adéquate garantit que les déchets électriques et électroniques seront recyclés et réutilisés correctement. Elle permet d'éviter de porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine et aide à préserver les ressources naturelles.

- Ne jetez pas le produit avec des déchets ménagers.
- Les batteries ne doivent pas être jetées dans les caniveaux et nécessitent une collecte séparée.
- L'élimination de l'emballage et de votre produit devra se faire selon les règlements locaux.

[ITALIANO] Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo indica che il presente Prodotto non potrà essere unito ad altri rifiuti domestici in fase di smaltimento. Esiste un sistema di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. In genere le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere restituite gratuitamente. Per ulteriori informazioni, contattate le autorità competenti o il punto vendita dove è stato acquistato il Prodotto. Il corretto smaltimento assicura che le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano riciclate e riutilizzate adeguatamente. Tale pratica aiuta ad evitare danni potenziali all'ambiente e alla salute dell'uomo e a preservare le risorse naturali.

- Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici.

- Le pile non possono essere smaltite nel flusso dei rifiuti domestici, bensì richiedono una raccolta differenziata.
- Lo smaltimento della confezione del Prodotto deve avvenire nel rispetto delle normative locali.

[PORTUGUÉS] Informaçoes sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este Produto não deverá ser misturado com resíduos urbanos não triados quando o quiser descartar. Existe um sistema de recolha diferenciada para resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Normalmente, os equipamentos eléctricos e electrónicos obsoletos podem ser devolvidos sem qualquer custo. Para más informações, por favor, contacte as autoridades públicas municipais ou a loja onde comprou o Produto. O descarte correto garante que os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos são devidamente reciclados e reutilizados. Ajuda a evitar potenciais danos para o ambiente e para a saúde pública, e a preservar os recursos naturais.

- Não descarte o Produto juntamente com os resíduos domésticos.
- As baterias não devem ser descartadas juntamente com a cadeia de resíduos urbanos e necessitam de recolha diferenciada.
- O descarte da embalagem e do seu Produto deve ser feito de acordo com os regulamentos locais.

[ESPAÑOL] Información sobre reciclaje y eliminación

El símbolo indica que cuando deseché este Producto, no debe mezclarlo con residuos municipales sin clasificar. Existe un sistema de recogida independiente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Normalmente, los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos pueden ser devueltos de forma gratuita. Para más información, consulte con las autoridades municipales competentes o con el establecimiento donde adquirió el Producto. Desechar los aparatos eléctricos y electrónicos de forma correcta garantiza un reciclaje y una reutilización adecuados. Esto ayuda a evitar posibles daños en el medio ambiente y en la salud de las personas y preservar los recursos naturales.

- No mezcle el Producto con los residuos domésticos cuando lo deseché.
- Las baterías no deben mezclarse con los residuos municipales y deben depositarse en contenedores apropiados para tal fin.
- Debe desechar el envase y su Producto conforme a la normativa local.

[POLSKI] Informacja na temat utylizacji i recyklingu

Symbol wskazuje, że zużyty produkt nie powinien być wyrzucony razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Istnieje oddzielny system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zazwyczaj stary sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie zwrócić. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z właściwymi władzami miejskimi lub z pracownikami sklepu, w którym produkt został zakupiony. Prawidłowe usunięcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala na jego odpowiedzialne i ponowne wykorzystanie. To pomaga uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz uchronić zasoby naturalne.

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi.
- Baterie nie powinny być usuwane razem z odpadami komunalnymi; wymagają oddzielnej zbiórki.
- Usunięcie opakowania i zużytego Produktu powinno odbyć się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

[TÜRKÇE] İmha ve Geri Dönüşüm Bilgisi

Sembol bu Ürünün uzaklaştırılmasını tasnif edilmiş şehir atıklarına karıştırılmaması gerektirğini ifade eder. Elektrik ve elektronik atıklar için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur. Çoğunlukla eski elektrik ve elektronik araç gereçler ücretsiz olarak geri dönüşümlüdür. Daha bilgi için lütfen yetkili belediye görevlilerine ya da Ürünü satın aldığınız mağazaya ulaşın. Doğru kullanımla atık elektrik ve elektronik araç gereçlerin geri dönüşümlülüğünü ve doğru bir şekilde terk edilmiş garanti eder. Çevre için olası zararların önlenmesine ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

- Ürünü evsel atıklarla beraber atmayın.
- Bataryalar kent atıkları arasında atılmamalıdır ve ayrı olarak toplanmaları gerekir.
- Ürünün ve paketinin bertarafının yerel yasal düzenlemeler uyarınca yapılması zorunludur.

[RUSSIAN] ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

Этот символ указывает на то, что данное изделие при утилизации не должно попадать в несортированные бытовые отходы. Для использованного электрического и электронного оборудования существует отдельная система сбора мусора. Как правило, старое электрическое и электронное оборудование может быть бесплатно сдано на утилизацию.

- За более подробной информацией можно обратиться в компетентные муниципальные органы или в магазин, где вы приобрели изделие. Правильная утилизация обеспечивает надлежащую переработку и повторное использование электрического и электронного оборудования. Она позволяет избежать возможного ущерба окружающей среде и здоровью людей, а также сохранить природные ресурсы.
- Не выбрасывайте изделие в бытовые отходы.
- Батарейки не следует выбрасывать в коммунально-бытовые отходы, поскольку для них требуется отдельная система сбора.
- Утилизация упаковки и самого изделия должна осуществляться в соответствии с местными нормативными требованиями.

[ROMANIA] INFORMAȚII DESPRE ELIMINARE ȘI RECICLARE

Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie amestecat cu deșeurile municipale nesortate atunci când este aruncat. Există un sistem de colectare separată pentru deșeurile echipamentelor electrice și electronice. De obicei, echipamentele electrice și electronice vechi pot fi returnate gratuit. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile municipale competente sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Eliminarea corectă asigură faptul că deșeurile echipamentelor electrice și electronice sunt reciclate și reutilizate în mod adecvat. Acest lucru ajută la evitarea deteriorării mediului înconjurător și afectarea sănătății umane, susținând conservarea resurselor naturale.

- Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere.
- Bateriile nu trebuie eliminate folosind sistemul municipal de deșeuri și necesită colectare separată.
- Eliminarea ambalajului și a produsului trebuie să se facă în conformitate cu reglementările locale.

[CZECH] INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s netříděným komunálním odpadem. Pro likvidaci nepoužívaných elektrických a elektronických zařízení existuje samostatný systém sběru. Stará elektrická a elektronická zařízení lze obvykle bezplatně vrátit. Další informace získáte u příslušných obecních úřadů nebo v prodejně, kde jste produkt zakoupili. Správná likvidace je zárukou, že nepoužívaná elektrická a elektronická zařízení budou recyklována a vhodně znovu použita. Pomáhá předcházet možným škodám na životním prostředí a lidském zdraví a zachovávat přírodní zdroje.

- Nelikvidujte výrobek s běžným domácím odpadem.
- Baterie nesmí být likvidovány s běžným komunálním odpadem, je třeba je shromažďovat odděleně.
- Likvidace obalu a výrobku by měla probíhat v souladu s místními předpisy.

[Vietnamese] THÔNG TIN XỬ LÝ VÀ TÀI CHẾ RÁC THẢI

Biểu tượng chỉ ra rằng Sản phẩm này sẽ không được trộn lẫn với rác thải đô thị không được phân loại khi được xử lý. Có một hệ thống thu gom riêng biệt dành cho thiết bị điện và điện tử phế thải. Thông thường thiết bị điện và điện tử cũ có thể được trả lại miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với cơ quan địa phương có thẩm quyền hoặc cửa hàng nơi bạn mua Sản phẩm. Việc xử lý đúng cách đảm bảo rằng thiết bị điện và điện tử phế thải được tái chế và tái sử dụng một cách thích hợp. Việc này giúp tránh được mối nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người và nhằm mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Không xử lý Sản phẩm phế thải cùng rác thải sinh hoạt.
- Pin phế thải không được xử lý cùng rác thải đô thị và cần thu gom riêng.
- Việc xử lý phế thải bao bì và Sản phẩm của bạn nên tuân theo quy định của địa phương.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Thailand

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กททศ.

Korea

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
통화 시 단말기를 입에 대고 통화하게 되면 하울링 현상 등으로 정확한 통화가 이뤄지지 않으므로
한 뱀 정도(10~15cm) 이격을 두고 사용하세요.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

Taiwan

警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現

現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及

醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用過度恐傷害視力。

使用30分鐘請休息10分鐘。

未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。



廢電池請回收

| 設備名稱：智慧型手錶；型號(型式)： | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ^{VI}) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 電路板 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 錶殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 錶帶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充電器 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1： “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分含量超出百分比含量基準值。
備考2： “○”係指該項限用物質之百分含量未超出百分比含量基準值。
備考3： “—”係指該項限用物質為排除項目。

SINGAPORE

Complies with
IMDA Standards
DA105446

MALAYSIA



AUSTRALIA/NEW ZEALAND



RUSSIA



CHINA



| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---------|------|---|---|--------|------|-------|
| | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬化合物 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 |
| 外壳及内部部件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

